



893.7112

N 232

NawawI

893.7112

N 232

JAN 5 1945

Mohammed Ben 'Orwa Ben 'Alkama	— —
- - -	Kanb Bem Selim el -Kora'ti.
- - -	Moslem Ben 'Obaidolla — —
- - -	Moslema Ben Châled — —
- - -	Naçr el -Meruzi.
- - -	Jahja Ben Habbân — —
- - -	Jahja Ben Abi Mañçur Nisaburensis.

CORRIGENDA.

Pag. 2.	lin.	penult.	leg.	وغير
-	4.	-	13.	- أنزل
-	16.	-	6.	- للواحدى
-	18.	-	antipen.	- الله
-	20.	-	penult.	- وأشهاد
-	29.	-	14.	- et in Regulis Abi David et en-Nasâi Abu cat.
-	—	-	29.	- Galschf
-	30.	-	11.	- يكنى
-	34.	-	14.	- واختلفوا
-	37.	-	11.	- gradus
-	44.	-	ult.	- ante vocem ultimam inserere بن
-	46.	-	10.	- المدينة
-	50.	-	1.	- اشرع
-	55.	-	penult.	- et hic
-	57.	-	15.	- redditit
-	—	-	18.	- invitabant
-	—	-	antipen.	- manu
-	58.	-	2.	- لني
-	59.	-	antipen.	- nodi
-	70.	-	3.	- الى pro علي
-	74.	-	12.	- سنين
-	90.	-	11.	- متعلق
-	94.	-	—	- ضلالة

Pag. 86. lin. 7. vid. Sur. 53. vers. 49. Cod. بحل. — lin. 8. Sur. 53. vers. 47. — lin. antipen. ليس ملايسه est conjunctura cl. Ewald pro ليس لامتد Codicis.

Pag. 88. lin. 4. Cod. والقسم الاول, quod mutavi, quoniam hic subdivisio altera hujus sectionis incipit. — lin. 7. Ad nomen el-Marwarrudi ex ejus vita haec in margine annotantur: مهم مفتوحة وراء ساكنة ثم واو مفتوحة ثم راه مضمومة مشددة ثم واو ثم ذال معجمة وقد يقال بتحفيف الراء ويقال المرزوي * تهذيب الاسماء في ترجمته.

Pag. 90. lin. 9. vid. Sur. 53. vers. 6.

Pag. 92. lin. 8. vid. Sur. 53. vers. 6.

Pag. 94. lin. 2. vid. Sur. 53. vers. 59.

Pag. 96. lin. 6. Vocis بجانب puncta diacritica in Codice desunt omnia, sed non dubito, quin recta apposuerim.

Pag. 98. lin. penult. Cod. الخايس.

Viri, quibus nomen est Mohammed, quorumque vitas sectio secunda continebit, hi sunt:

Mohammed Ben	Fedris — —	Schafei.
- - -	- - -	Ismael Bochari.
- - -	- - -	Ibrahim Ibn el-Hareth — —
- - -	- - -	Ibrahim Ben Omija el-Tartusi.
- - -	- - -	Ishak Ben Gaser.
- - -	- - -	Ishak Ben Chozaima.
- - -	- - -	Gerir — — el-Tabari.
- - -	- - -	Ha'teb Ben el-Hareth — —
- - -	- - -	el-Hassan Ben Abi Hanifa Schaibani.
- - -	- - -	Sirin.
- - -	- - -	Talha Ben Obaidolla.
- - -	- - -	Ibbad Ben Gaser — —
- - -	- - -	'Abdolla Ben 'Abdorrahman —
- - -	- - -	Abu Bekr 'Abdolla Ben 'Othman.
- - -	- - -	Abdorrahman Ben el-Mogaira — —
- - -	- - -	'Aglan.
- - -	- - -	'Ali Ben el-Hosain — —
- - -	- - -	'Ali Ben Schafe'.
- - -	- - -	'Ali Ben Abi 'Taleb.
- - -	- - -	'Amr Ben Hazm — —

Pag. 80. lin. 2. Vocabulum جلد in notula infra margini adscripta ita explicatur: الجَدُّ i. e. الجلد بفتح الجيم القطة الغليظة الصلبة من الارض * ابن ملك للمصالح: cum duobus Fatha est solum terrae salebrosus et durus. Ibn Malek ex opere concinnato. — Fortasse hac voce usus est Abulfeda, enarraus hoc ipsum factum, cf. Annal. tom. 1. pag. 72. lin. 9 et not. — ibid. Cod. رِصَاحَت.

— lin. ult. In margine haec leguntur verba: قوله طلب الهيم يفتح الظاء واسكان اللام وبصمها ايضاً اذا لم يكن بها تحجبل والكمهت ما يخاط جرد سواد مثير الغرام Loentio cum Fatha litera 'Ta et Lam quiescente et deinde cum Damma, significat, si equus non est in omnibus pedibus albus; et كهت, si immiscet se rubedo nigredine. Ex libro, cui titulus «submovens errorem».

— Exadversus in margine haec verba: i. e. الهم بصم الهاء والخير والبركة والقوة الهم cum Damma literae Je significat optimum et felicitatem et robur.

Pag. 82. lin. 1. Voet Schaniga recta mihi videor apposuisse puncta, quae plane omitta sunt in Codice, nam ita nominatur equus brevis et contractiore femoris nervo, quod in laude ponitur, quia firmiores ei pedes. Gol. ex Kam. — ibid. Nomen Mortagez ita explicatur in nota margini adscripta: قوله المرتجيز بكسر الميم سمى به لحسن صهيله كأنه يمشد رجلاً وكان اشهب وقيل هو الظرب بكسر الظاء وقيل هو النجيب والنجيب والظرب هو الكريم من الخيل * من مثير الغرام Nomine Mortagez, cum Kesra literae Ġim, appellatur equus ob pulchritudinem hinnitus ejus, perinde ac si recitaret carmen generis Regz. Erat albescens et, ut dicitur, brevi statura et egregius; hoc autem est optimum equorum genus. — Ad vocem ظرب deinde haec addita est nota: والظرب بفتح الظاء المججمة وكسر الراء كذا راهتد في مواضع معتدة. وهو واحد الظراب وفي الجبال الصغار * مثير الغرام cum Fatha literae Re, sicut scriptum vidi in locis 'Ta, puncto instructae, et cum Kesra literae Re, sicut scriptum vidi in locis fide dignis, est forma singularis vocis ظراب, quae significat montes parvos. Appellatur ita equus ob superbiam et pinguitudinem suam, et dicitur ob robur et fortitudinem suam. — lin. 9. Cod. لها له.

Pag. 84. lin. 1. Monente el. Ewald لانّ posui loco لكي, quod in Cod. legitur. — lin. 4. Cod. حيرة «stupor mundi», quod vix dici posse crediderim.

— lin. 15. Cod. واستأسوا, quod quum sensu caret, emendatione el. Ewald mutavi in واستأسوا. — lin. ult. Korani locum vid. Sur. 17. vers. 80.

Pag. 48. lin. 1. التهم respicit ad Sur. 3. v. 7. ubi permittitur Moslemis, deficite aqua ad lotionem sacram uti pulvere. — lin. 11. Cod. العاص, sed in ejus vita ipse Abu Zacarja memorat, scriptorum maximam partem scribere hoc nomen cum Je الجهور عني كتابه بالباه. — lin. ultim. Korani verba vid. Sur. 110. v. 1.

Pag. 52. lin. 6. Incertus sum, an rectam restitui lectionem et recte verti, nam in Codice nounisi السة legitur, et quae siut sex Dei nomina, non plane intelligo.

Pag. 54. lin. 11. Loco جمع margini adscriptum est جمع, res nullius momenti.

Pag. 56. lin. penult. Cod. تعرفتہ cujus sensum non intelligo.

Pag. 58. lin. 10 sqq. Nonnullae voces rariores hujus descriptionis formae Mohammedis brevibus explicantur in Abulf. Ann. Tom. 1. pag. 190 r).

Pag. 62. lin. 3. Ita restituere conatus sum Codicem, cujus verba الاشهر الاصم على omni sensu earent. Verbis على الاصم Abu Zacarja sententiam, quam ipse probat, laudare et deinde alias proferre solet, quas verbo وقى inducit. Nunc in vita Fatimae varias commemorat sententias, eam tertio vel octavo vel secundo mense post Mohammedis obitum mortuam esse.

Pag. 64. lin. 5. Cod. بعثت, calami lapsu; nam vix crediderim, librarium hoc viri nomen, quod saepissime occurrit, habuisse pro nomine loci, ita ut Aceusativus a voce شهد dependeret. — lin. 6. Librarius ex linea sequenti huc apposuerat verba وابو رافع ومدعم بكسر الليم, sed ut vidit se omisisse lineam, delevit illa verba prioribus, quae vero aequae mihi delenda esse videntur, quia hoc nomen in linea sequenti occurrit, ita ut Aslam sit nomen Sarbui.

Pag. 66. lin. 2. Cod. بعثت.

Pag. 68. lin. 13. Cod. القراط, sed in ejus vita semper القراط.

Pag. 69. lin. 24. De sacris itineribus 'Omra et Hegga vid. Abulfed. Annal. Tom. I. pag. 179. not.

Pag. 70. vox ultima in Cod. legitur ويخسف.

Pag. 72. lin. 12. Verba Korani vid. Sur. 9. v. 150. — lin. 13. Sur. 9. v. 103.

Pag. 74. lin. 1. Cod. الحرم. — lin. ult. Sur. 17. v. 89. coll. Sur. 2. v. 23.

Pag. 76. lin. antipen. Cod. و omisso و, quod facile fuit correctum et deinde Sa'ad scripsi pro سعبد Codicis ex vita hujus viri, sicut jam supra pag. 56. lin. 10. ejus nomen occurrit. — lin. ult. Cod. دلف.

Pag. 28. lin. 3. In initio hujus periodi adjienda mihi videntur verba ما في, nam alio modo non apte cohaeret locus.

Pag. 30. lin. 8. Nomen el-Cherjak in vacuum Codicis locum ex ejus vita restitui. — lin. 11. Vocabulum وخرج, margini adscriptum, in textum recepi.

Pag. 34. lin. 12. Locus Korani legitur Sur. 9. v. 102. Marrac. — lin. penult. Nomen القرطي restitui ex ejus vita pro القرطي Codicis. — ibid. vid. Koran. Sur. 48. v. 29.

Pag. 36. lin. 1. vid. Sur. 3. v. 110. — lin. 2. vid. Sur. 2. v. 144. — lin. 3. Hoc Prophetiae dictum paullulum immutatum, ejusque causa invenitur apud Abulfed. Annal. ed. Adler. Tom. 1. pag. 158. Sed ipsa Mohammedis verba potius tradidisse videtur Abu Zacarja, quippe qui verbum obsoletum نَصَبَ interpretatus est usitatore نَصَفَ. — lin. 12. vid. Sur. 48. v. 18.

Abulfed. Annal. Tom. I. p. 124. — lin. ultim. Miro animo obstinato librarius in scribendo nomine Chadigae semper omisit punctum diacriticum literae Cha, quod eadem restitui, quia Abu Zacarja certe ita scripsit; nam vita Chadigae occurrit sub litera Cha, ibique librarius etiam punctum semper apposuit.

Pag. 40. lin. 8. Cod. انترت. — lin. antipeu. Mouente Cl. Ewald pro وان Codicis posui وان, quod sententiarum ordini magis convenit.

Pag. 44. lin. 3. In scribendo nomine el-Meruzi morem receptum secutus sum, quamquam in Codice nostro scriptum inveni المرززي et rectius inde pronuntiandum esset el-Merwazi, ex urbe مرو Merw in Persia cf. not. ad pag. 88. lin. 7. — lin. 6. Hoc loco et pag. 46. lin. 3. et alias in Codice semper fere scriptum est شرج, adeo in titulo ejus vitae ابو العباس بن شرج; sed per totam deinde vitae descriptionem recte legitur ورج, quod recepi. cf. Ibn. Chalic. n. 20. — lin. penult. el-Barez est nomen quorundam virorum, vid. Herbelot s. h. v. sed nescio, an recte ita restitui Codicem, qui et hic et paulo post pag. 46. lin. 3. omissis punctis habet الرري.

Pag. 46. lin. 10. Integras hic Abulfedae annales repetere necesse esset, si hoc compendium commentario explanare vellem, quare ad eas in univ. ablegare mihi permissum esse duco, quum ex ordine annorum longior ejusque acti expositio facillime inveniri possit. — lin. ultim. Non semel in Codice nostro voci نَصَبَ vocalium signa apposita sunt, cf. pag. 70. lin. 4. ita ut Nadir pronuntiandum sit. Gagnier, vit. Moh. pag. 71 scripsit ابني النظار, quod Adler, Abulfed. Annal. Tom. I. pag. 103. recte mutavit in ابني المضهر, sed pronuntiavit .Nodairii.

Pag. 12. lin. nltim. In Codice confusis punctis legitur حنّاط.

Ibid. lin. penult. Quae inde sequuntur usque ad pag. 18. edidit jam Cl. Hamaker in Specimine Catalogi Codd. Mss. Orient. bibliothecae acad. Lugd. Batavae. De auctoribus et libris hic commemoratis diffuse exposuit, ita ut sufficiat, varias apponere lectiones et quidquid aliud immutandum esse mihi visum sit.

Pag. 14. lin. 1. Vocem Abu uncis inclusit H. quo jure, nescio. — Deinde sic habet حباط المرز وحلبفة بن حباط المرز بشباب حلبفة et saepius alias in Codice, interdum tamen appositum est punctum diacriticum. Sed nomen insequens, ubicunque apposita sunt puncta diaeritica, semper legitur حنّاط sive حنّاط cf. pag. 32. lin. 12. Cognomen ejus alio loco nondum inveni, et vitam hujus auctoris, sicut plurimorum, quorum opera hic commemorantur, omisit Abu Zacarja, quod sane dolendum. — lin. 3. Nomina auctorum Abu Hatem et Ibn Abi Hatem transposita leguntur apud H. — lin. 6. Loco اكلبار H. edidit وقرها, sed uncis inclusum et recte vertit: «aliaque ex majoribus Chronicis.» — lin. 7. Nomen Abu Naïm in Codice nostro pluribus locis, ubi vocalium signa apposita sunt, legitur Abu Nosim. — lin. antipen. مهمات, H. مهمات.

Pag. 16. lin. 4. H. edidit المعتزلي et vertit: «libroque Ar Romanii Motazalitae.» Sed practuli lectionem Codicis nostri cum Lam praefixo, quo denique auctor notatur, ita ut vocabulum proxime praecedens indicet libri titulum. — lin. 6. Restitui ex H. nomen integrum Abi Obaid el-Kasem B. S.

pro ابي بن سلام Codicis; sed rectius legendum est عبيدة, sicut saepius scriptum inveni in ejus vita, ubi etiam libri commemorati mentio fit. Ibn Chalican n. 343. Tydem. habet عبيد. — lin. 13. H. نسخ «archetypa», quod parum convenire videtur ceteris vocabulis. In Codice nostro puncta diaeritica nulla adsunt et satis aperte legitur المسح, sed haesitavi quomodo vertendum sit, quod facillime decerni potuisset, si altera pars totius operis, qua exposuit Abu Zacarja haec vocabula, ad manus fuisset. — ibid. pro متقنا H. ed. متقنا. — lin. penult. Recte conjecit H. pro حارمي sui Codicis legendum esse حارمي, quae lectio Codicis nostro probatur.

Pag. 18. Quae hic affert Abu Zacarja vocabulorum et sententiarum exempla compressione brevia et ob eam ipsam causam plerumque obscura sunt; sed deficiente altera totius operis parte, ubi haec exposuit auctor, plus inmiis afferre iis mihi non licet.

Pag. 20. lin. 12. In Codice legitur شرحته, librarii errore ut videtur, nam secunda persona sensu caret.

Pag. 24. lin. 7. Cod. يدخل.

A N N O T A T I O N E S.

Exorditur Abu Zacarja praefationem a describendo alto linguae Arabicae statu, ejusque praestantia inter ceteras linguas. Jam in praemissa Dei, Mohammedisque laude huc spectant verba, practulisse Deum linguam Arabicam ceteris linguis, quod inde eluceret, quod in ea revelasset Mohammedi Koranum. In hac parte prima, quae duas priores paginas textus Arabici comprehendit, sermone utitur auctor elegantissimo et ornatissimo, qui altius etiam tollitur, quam extremorum verborum soni usque eo similes sint, ut paribus pares respondeant. Haec scribendi ratio Arabicis scriptoribus usitatissima est in laudibus Dei et Mohammedis, non solum in iis, quae cuique fere operi Arabico praemittuntur, sed in iis etiam, quae inseruntur medio operi, uti videre licet in nostro pag. 24 in fine et pag. ultima. Ibn Chalican tantam adeo impendit operam, ut omnes laudationis periodi eodem modo cadant. Abu Zacarja autem suum modum pertexit per totam partem, qua de linguae praestantia agit. — Arabes hunc sermonem solutum syllabis in fine periodorum eodem modo desinentibus appellant حُطَّاءٌ et qui transcripsit Codicem nostrum verba similiter cadentia per puncta rubra divisit, quod equidem incidere volui eo, quod majori spatio ea distinxit.

Commemoratis deinde sex libris, ex quibus potissimum suum opus composuerit, ad divisionem, dispositionem et ordinem ejus venit auctor et postea multorum aliorum librorum, ex quibus hauserit, mentionem facit — pag. 26. His accedunt alia sex capita, quae maximi fuisse momenti videntur auctori, nam fundamenta et leges, quibus hunc librum judicare liceat, iis contineri dicit. Jam in capite primo tractat de utilitate cognoscendi nomina virorum illustrium, eorumque conditiones, dicta et dignitatis gradus, pag. 26. Altero capite exponit de nominibus et cognominibus pulchris, item de pejoribus in meliora mutandis, pag. 28; tertio: de ordine cognominum gentilium, si quis pluribus cognominetur, pag. 32; quarto: quis sit Comes, Assela et Sectar, pag. 34; quinto: de propagatione divinae scientiae inter socios Schafeji, pag. 42; sexto denique summatim describit res gestas per decem annos a fuga usque ad mortem Mohammedis. — Nunc de singulis pauca adjiciam.

Pag. 2. lin. 11. Oculi vel calami lapsu in describendo voci اتقان superposui Tesehdid et ita edidi et verti; sed accuratius inspicienti mihi apparet, locum Tesehdidi in Codice obtinere Ğezm et legendum esse اتقانها, qua voce linguae fundamenta significantur.

Pag. 4. lin. 3. Non dubitanter scripsi عنه pro عنهما Codicis, quod librarii errore facile ex sequenti عنهما irrcpere potuit.

capiunt literae. — Haec sunt dicta virorum doctorum, et recta est conclusio, hoc permissum, imo gratum esse, et si dicitur, necessarium esse, haud procul est, ne arceatur ab eo consensus, quia saepe vidit ignarus quasdam proprietates, probatas vera traditione, et inde facit morem receptum, ex quo derivat imitationem. Necessaria est expositio hujus rei, ut nota sit, neque alii eandem sequantur sententiam. Et quatenam utilitas major est illa? Nunc quod attinet ad virtutes proprietatum, quibus nihil inest utilitatis hodie, perpaucum est, cujus exemplum non emittunt capita de scientia religionis, ex consuetudine. Et notitia argumentorum et vera definitio cujusdam rei secundum statum, in quo erat, sicut dicunt in statutis, excedit centum rationes et plures. Et in Deo auxilium! Hoc est postremum, quod elegi ex quantitate rerum praestantium, quae pertinent ad descriptionem vitae Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! amati Domini mundorum, optini priorum et posterorum, favores Dei ad eum pertineant ejusque pax, et ad ceteros prophetas et totam familiam et ceteros pios! Praesidium meum est Deus, et o praecclarum curatorem!

زيادة العلم ﴿ هذا كلام الاصحاب * والصواب الجزم بجوانب ذلك بل
 بامتصاصه ولو قبل بوجوبه لم يكن بعهدا ان لم يمنع منه اجماع
 لانه ربما رأى جاعل بعض الخصائص ثابتا في الصحيح فعمل به اخذا
 باصل التلوي فوجب بيانها لتعريف ولا مشاركة فيها واي فائدة اعظم
 من هذه * واما ما يقع في اثناء الخصائص مما لا تأتد في اليوم فتقبل
 جدا لا يخلوا ابواب الفقه عن مثله للتدريب * ومعرفة الادلة وتحقيق
 الشئ علي ما هو عليه كما يقولون في الغرائب ترك مائة جدّة ونحو
 ذلك * وبالله التوفيق فهذا آخر ما انتخبته من نبيذ العيون المتعلقة
 بترجمة رسول الله صلعم حبيب رب العالمين وخير الأولين والآخرين *
 صلوات الله عليه وسلامه وعلي ساير النبيين وآل كلّ وسائر الصالحين *
 وحسبي الله ونعم الوكيل ﴿

rem commisit in precibus, neque in aliis rebus. Eodem pertinet, quod, qui vidit eum per somnium, jam viderat eum revera, nam Satanas non imitatus est ejus figuram, neque fecit, quid audivit somniator ab illo in somnis, quod adstrictum est conditionibus, si repugnet ei, quod stabilitum est in lege ob mancā perceptionem somniantis, minime ob dubium visum somnii, quia praedictum non refertur nisi ad violenter percipientem, cujus contrarius est dormiens. Porro huc spectat, quod terra non consumit carnem prophetarum, ex traditione divulgata; nec non dictum ejus, propitius sit ei Deus et favens! «mendacis fallere me non idem est ac fallere alium.» Dicunt viri docti nostri, aliique: De industria fallere eum mendacis est ex delictis gravibus, et si hoc licitum censet consulto faciens, impius est, si non, hoc est sicut cetera delicta, non impius est hae de causa. Et dixit Doctor Abu Mohammed el-Gavini, pater Imami Meccae et Medinae: impius est hae de re; sed verum est prius, quod etiam sanxerunt plurimi. Et Deus est sciens. — Scias autem, hanc sectionem numero comprehendi non posse; attamen iis rebus, quas commemoravimus, commovere volumus de iis, quae illis similes sunt.

Finiamus nunc hoc caput duobis dictis, alterum est hoc: Dixit Imamus Meccae et Medinae: Dicunt vera docentes: Commemoratio contrarii in quaestionibus de proprietatibus est dementia, cui nihil utilitas inest; nam non cohaeret cum ea sententia jugulans, qua imponeretur alicui officium et tantummodo occurrit contrarium in sententiis stabilitis, quas fieri non potest quin assequamur, quia de opinionibus certari non potest et ad sententias proprias pertinent judicia, et si quid dijudicatum non est, contrarium dicere et idem atque impetum facere in arcana inutilia. — Dictum alterum: Dixit eç-Çaimeri: Repulit Abu 'Ali Beu Chairân sermonem de proprietatibus, quia res praeterita est. Addit: Et dicunt ceteri virorum doctorum nostrorum, nullus esse momenti, et hoc verum est ratione incrementi, quod inde

ولا غيرها * ومنه أن من رآه في المنام فقد رآه حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بصورته ولا يعمل بما سمعه الرأى منه في المنام مما يتعلف في الأحكام ان خالف ما استقر في الشرع لعدم ضبط الرأى لا للشك في الرؤية لأن الخير لا يقبل إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه * ومنها أن الأرض لا يأكل لحوم الانبياء للحديث المشهور * ومنها قوله صلعم أن كذباً على ليس ككذب علي احد * قال اصحابنا وغيرهم متجدد الكذب عليه من الكبار نان استحلته المتجدد كفر والأ فهو كسائر الكبار لا يكفر بهاء وقال الشيخ ابو محمد الجوهني والد امام الحرمين بكفر بذلك والصواب الأول وبه قطع الجمهور والله اعلم * واعلم أن هذا الضرب لا يخصص ولكن نبيها بما ذكرنا علي ما سواه *

ولنختم الفصل بكلامين احدهما قال امام الحرمين قال المحققون ذكر الخلان في مسائل الخصائص ضبط لا نائدة فيه فانه لا يتعلف به حكم ناجر تمس الحاجة اليه وإنما يجري الخلان فيها لا نجد بدأ من اثبات حكم فيه نأ الاقبسة لا مجال لها والاحكام الخاصة بقع فيها النصوص وما لا نص فيه فالخلان فيه هجوم علي الغيب من غير نائدة * الكلام الثاني قال الصهرى منع ابو علي بن خيران الكلام في الخصائص لآته امر انقضى قال * وقال ساهر اصحابنا لا بأس به وهو التصحيح لما فيه من

clavis, neque advocare eum nomine ejus, ita ut dixisset: o **Mohamed!** imo potius dicendum erat: o **Propheta Dei!** o **Legate Dei!** Et affabatur eum precans verbis: **Pax tibi, o Propheta, et gratia Dei, ejusque benedictiones!** et si affabatur hominem alium, vana erat precatio sua. Et necesse erat precanti, si ille advocabat eum, ut responsum ei redderet, etsi versabatur in precibus, nec vanae erant preces ejus. **Urina et cruore ejus benedicebant sibi; et capillus ejus erat mundus, etsi judicamus ex impuritate capilli populi.** Dissentiunt viri docti nostri de puritate eruoris et urinae ejus, et de ceteris excrementis. **Devitabat donum magnum, quod aliter est in aliis, a praefectis rerum, neque licitum ei erat sumere donum subditorum eorum, ex ordine divulgato.** Nec licita est insania prophetis, sed licitum est iis animi delinquere, nam hoc est morbus et aliud quid est insania. Et dissentiunt de licentia pollutionis; et divulgatissima est sententia, eam vetitam fuisse. Et decrant ei, propitius sit ei **Deus et favens!** duae inclinationes sacrae post meridiem, sed absolvebat eas post tempus pomeridianum et assiduus erat in iis post tempus pomeridianum. Et de proprietate ejus in hac assiduitate duas statuunt sententias viri docti nostri, quarum rectior et divulgatior proprietatem esse judicat. Et dixit, propitius sit ei **Deus et favens!** «Nominate me nomine meo, neque cognomine.» Et de licentia cognominandi eum cognomine **Abul-Kasem**, dissensio est; quod fusius exposui in **Horto** et in libro **Memorabilium.** Et dixit, propitius sit ei **Deus et favens!** «Omnes propinquitates et cognationes irritae fient die resurrectionis, exceptis propinquitatibus et cognationibus meis.» Dicitur: sententia haec est: **Secta ejus referet genus ad eum die resurrectionis, et sectae ceterorum prophetarum non referent genus ad hos; dicitur etiam: Utilitas capietur illo die e referendo genus ad eum, neque utilitas capietur ex ceteris cognationibus.** — Dicitur viri docti nostri: **Quis vilipendit aut seortatur eum excellentia ejus, impius est, ut dicere solent; et voei لى inest sensus mysticus.** Dixit **Ibn el-Kâçç** et **el-Koffal el-Meruzi:** Attinet etiam ad proprietates ejus, propitius sit ei **Deus et favens!** quod tollebatur de mundo, si accipiebat revelationem, neque erro-

باسمه فيقول يا محمد بل يقول يا نبي الله يا رسول الله * ويتخطيه المصلي
يقوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته واو مخاطب ادبها غيره
بطلت صلواته * ويلزم المصلي اذا دعاه ان يجيبه وعوفي الصدوة ولا
يمطل صلواته * وكان بوله ودمه يتبرك بهما وكان شعره طاهراً وان
حكمتنا بنجاسة شعر الامة * واختلف اصحابنا في طهارة دمه وبوله
وسائر الفضلات * ويجانب الهدية جلاً له بخلاف غيره من راة الامور فلا
تحل له هدية رعايعهم علي تفصيل مشهور * ولا يجوز الجنون علي الانبياء
وجوز عليهم الاقراء لا يمرض بخلاف الجنون واختلفوا في جواز الاحتلام
والاشهر امتناعه * وانه صلعم ركعتان بعد الظهر فتضاهها بعد
العصر وواظب عليهما بعد العصر * وفي اختصاصه بهذه المداومة
وجهان لاصحابنا اجمعهما واشهرها الاختصاص * وقال صلعم تسموا باسمي
ولا تكتنوا بكنيتي * وفي جواز التكتي باي القسم خلاف اوجده في
الروضة وفي كتاب الاذكار * وقال صلعم كل سبب ونسب منقطع يوم القعدة
الا سببي ونسبي قبل معناه ان امته ينسبون اليه يوم القعدة واسم سائر
الانبياء لا ينتسب اليهم * وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب اليه ولا
ينتفع بسائر الانساب * قال اصحابنا ومن استهان او نرنا بحضرتك كفر
كذا قالوه وفي الزنا نظره * قال ابن القاص والقمال المرزوي ومن الحماض
انه صلعم يوحى عن الدنيا عند تلتي الوجي ولا يسقط عنه الصلوة

lieres non comprehendi terminatione virorum. — Dixit el-Bagavi unus ex viris doctis nostris: Appellatur Propieta, propitius sit ei Deus et favens! pater fidelium virorum et foeminarum. Tradidit autem el-Wähedi a nonnullis virorum doctorum nostrorum, eum non appellari hoc nomine, ex dicto Dei: «Non est Mohammed pater ullius ex viris vestris.» Ex sententia Selafeji, gratum habeat eum Deus! licitum est hoc nomen i. e. suspicio mihi est, id vetitum fuisse. Dixit: et sententia versus haec est: Non est quisquam ex viris vestris filius ex eo natus. Et in traditione vera in Regulis Abi David et aliorum narratur, Prophetam, propitius sit ei Deus et favens! dixisse: Equidem vobis nonnisi instar patris. Refertur hoc ad benignitatem, sive ad id, quod non pudore afficientur petendo a me beneficia, aliasque res, quibus opus habent, sive ad haec omnia et alia. Jamque exposui haec omnia in libro Comprobationis ex commentario Concinni. — Porro huc pertinet praestantia mulierum ejus prae ceteris mulieribus. Constituit remunerationem et praenium earum duplum. Et vetitum erat interrogare eas, nisi velo tectas; et licitum est alias adverso vultu affari. Praestantissimae mulierum ejus erant Chadiga et 'Äjescha. Dixit Abu Saïd, praefectus: et dissentiunt viri docti nostri, utra sit praestantissima.

De rebus extra matrimonium huc referendum est, quod ille, propitius sit ei Deus et favens! est Sigillum Prophetarum, optimus omnium hominum, ejusque secta praestantissima sectarum, et socii ejus optimi sociorum et quod secta ejus immunis servata est a consensu de aberratione, et lex ejus firmata est et abrogat omnes leges, et quod liber ejus est miraculum, servatus a perversione et permutatione et testimonium hominibus post mortem ejus, et miracula ceterorum prophetarum extincta sunt et liberata est a metu via mensis (sacri), et facta est ei terra templum et mandatio, et licita facta est ei praeda, et donata est deprecatio et gradus laudatus, et quod missus est ad homines prorsus omnes, et ille est dominus prolis Adami, et primus, a quo odoratur terra et primus depreceator, et primus, cujus deprecatio admissa est, et primus, qui pulsavit portam Paradisi et ille maximus Prophetarum ordine; et donata est collectio sermonum (Koranus); et ordines scetae ejus in precibus sicut ordines Angelorum. Neque dormiebat ejus cor, sed videbat post tergum suum, sicut videbat in fronte. Nec licitum erat cuidam tollere vocem supra vocem illius, neque advocare eum a postica parte con-

يدخلن في ضمير الرجال * وقال البيهقي من اصحابنا ويقال للقي صلعم ابو المؤمن والمؤمنات
 ونقل الواحدي عن بعض اصحابنا انه لا يقال ذلك لقوله تعالى ما كان محمد ابا احد من
 رجالكم قال ونص الشافعي رضي الله عنه علي جوانزه اي اتوهم في الحرمة * قال
 ومعني آية لبس احد من رجالكم ولد صلعم * وفي الحديث الصصحح في سنن اي دارد
 وغيره ان النبي صلعم قال انما انا لکم مثل الوالد قبل في الشفقة وقبل في ان لا يستحبوا
 من سؤالي عن ما تحتاجون اليه من امر العوارض وغيرها وقبل في ذلك كله وغيره *
 وقد اوجحت ذلك كله في كتاب الاستطابة من شرح المهذب ومنه تفضيل نسائه علي
 سائر النساء وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين وتحريم سؤلتهن الا من وراء حجاب ويحرم في غيرهن
 مشافهة * وفضل اثر واجه خديجة وعابشة * قال ابو سعيد المتولي واختلفت اصحابنا ايتها
 افضل ومنه في غير النكاح انه صلعم خاتم النبيين وخير الخلائق اجمعين وامته
 افضل الامم واصحابه خير القرون وامته معصومة من الاجتماع علي صلالة وشريعته موبدة
 وناجحة لجميع الشرايع وكتابه معجز محفوظ عن التعريف والتبدل وهو حجة علي الناس
 بعد واثاته ومعجزات سائر انبياء انقرضت ونصر بالربم مسيرة شهر وجعلت له الارض
 مسجداً وظهوراً واحلت له الغنائم واعطي الشفاعة والمقام الجود وارسل الي الناس كافة وهو
 سيد ولد ادم * واول من تشق عنه الارض واول شافع واول مشفع * واول من بقرع
 باب الجنة وهو اكثر الانبياء تبعاً واعطي جوامع الكلم وصفون امته في الصلوة
 كصفون الملائكة وكان لا ينام قلبه ويهي من دراه ظهري كما يهي من قداسه *
 ولا يحل لاحد ان يرفع صوته فوق صوته ولا ان يناديه من دراه الجرات ولا ان يناديه

damentali: num matrimonium ejus, propitius sit ei Deus et favens! sit instar matrimonii ex jure nostro, an inter concubinatus? — Manu misit Çafijam et uxorem eam duxit, ejusque manumissionem constituit tamquam dotem ejus. Dicitur etiam manumisisse eam ea conditione, ut eam uxorem duceret; tum necessaria ei erat promissionis observatio, quod in aliis aliter est. Item dicitur: ipsam manumissionem constituit tamquam dotem; et hoc verum est, in aliis autem aliter est. Dicitur etiam: manumisit eam sine compensatione et in matrimonium duxit eam sine dote, nec statim nec postea data; et hoc vero proximum est. Commemorant praeterea viri docti in hoc capite res permultas, quas omisi.

Sectio quarta, quid erat proprium ejus, propitius sit ei Deus et favens! in gradibus praestantiae et honoratione. — Huc pertinet, quod uxores ejus, quas moriens reliquerat, vetitae erant aliis in perpetuum; et de iis, quas dimiserat, dum vivebat, differunt sententiae, quarum rectior est, eas vetitas fuisse; et haec est sententia, quam sequitur Schaf'e'i, gratum habeat eum Deus! in judiciis de Korano; et haec de re dixit Abu 'Ali Ibn Abi Horaira secundum dictum Dei: et uxores ejus sunt matres eorum. Altera sententia est, eas licitas fuisse; tertia, vetitas fuisse eas, quibuscum rem habuisset. Hoc vero sufficit; et si nos probamus sententiam, eas vetitas fuisse, de ancillis, quas moriens reliquit, aut de aliis, quibuscum rem habuit, duae exstant opiniones. — Porro huc attinet, quod ejus uxores sunt matres Fidelium, tum quae mortuae sunt illo vivente, tum quas moriens reliquit; quare vetitum est ducere eas in matrimonium, et necesse est abstinere et obsequi iis, et vetita est inobedientia erga eas et in publico et in occulto. Et vetitae sunt filiae et sorores earum. Sed non dicitur, filias earum esse sorores Fidelium, neque patres et matres earum esse avos et avias Fidelium, neque fratres et sorores earum esse avunculos et materteras Fidelium. Dicunt nonnulli virorum doctorum nostrorum: Non transfertur nomen fraternitatis ad filias earum neque nomen affinitatis avunculi ad fratres et sorores earum.

Et haec est manifesta sententia Schaf'iji in Compendio Mazenii. Num autem complectatur ea matres mulierum fidelium, duplex est sententia virorum doctorum nostrorum, quarum verior hoc negat; imo sunt matres Fidelium praeter mulieres fideles. Traditio est 'Ajeschae, gratam habeat eam Deus! determinata eodem modo, quem eligerunt scriptores principiorum: mu-

عندهم وهو أنّ نكاحه صلعم هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتسريح * واعتق صغبة
وترجها وجعل عتقها صداقها * فقبل اعتقها وشرط أنّ ينكحها فلزمها الوتة بخلان
غيره * وقبل جعل نفس العتق صداقاً وصح ذلك بخلان غيره * وقبل اعتقها بلا عوض
وترجها بلا مهر لا في الحال ولا فيها بعد وهذا اصح * وذكر الانكاح في هذا النوع
اشياء كثيرة جداً حذفها ۞

الضرب الرابع ما اختص به صلعم من الفضائل والاكرام * فنه أنّ اتراجده
اللاتي توتى عنهن حرمات علي غيره ابدأ وفيهن نارتها في الهوة اوجد احبها تحريمها وهو
نص الشافعي رحمه الله في احكام القرآن * ربه قال ابو علي ابن ابي هريرة لقوله تعالى
وازوجه امهاتهم والثاني محل والثالث يحرم التي دخل بها * فقط اذا قلنا بالتحريم في
امة بفارتها بونة لو غيرها بعد الدخول وجهان * ومنه أنّ اتراجده امهات المؤمنين سواء
من توفيت تحتته ومن توتى عنها وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن
وتحريم عقوبتهن لا في النظر والحلوة وتحريم بناتهن واخواتهن * فلا يقال بناتهن اخوات
المؤمنين ولا اباؤهن وامهاتهن اجداد وجدات المؤمنين ولا اخوتهم واخواتهم اخوال
وخالات المؤمنين * وقال بعض اصحابنا تطلق اسم الاخوة علي بناتهن واسم الخواتم علي
اخوتهم واخواتهم * وهذا ظاهر نص الشافعي رح في مختصر المزني * وهل كن امهات
المؤمنات فبه وجهان لاصحابنا احبهما لا بل هن امهات المؤمنين دون المؤمنات * وهو
المنقول عن عابشة رضي الله عنها بناء علي المذهب المختار لاهل الاصول أنّ النساء لا

ejus sacra somno, incumbendo terrae. Commemorant nonnulli virorum doctorum nostrorum de dissolutione lotionis sacrae ejus tangendo mulierem duas sententias; et divulgata est dissolutio. Et de permissione morae ejus in templo, licet pollutus sit, duas memorant sententias viri docti nostri. Dissertit de hac re Abul-'Abbas Ben el-Râçç in Expositione ejus, quod licitum est; et dixit el-Hoffäl aliique, non licitum fuisse. Sed erroris arguit Imanus Meceae et Medinae aliique auctorem Expositionis, quod dixerit hoc licitum fuisse. Ille pro argumento permissionis adduxerat traditionem Atijae, auctore Abu Sa'id, qui eam a Propheta, propitius sit ei Deus et favens! acceperat: O 'Ali, non licitum est cuidam polluto commorari in hoc templo, me et te exceptis. Dixit et-Termedi: traditio pulchra. Sed obstat huic traditioni, quod 'Atija infirmae sit auctoritatis apud plurimos, cui argumento iterum objicitur, quod Termedi dijudicavit, eam esse pulchram. Fortasse etiam adjumentum petit ab eo, quod efflagitat ejus pulchritudo. — Et permissum ei erat sumere cibum et potum ab iis, qui eos possidebant, etsi iis indigebant, si ipse, propitius sit ei Deus et favens! indigebat iis et necesse erat eis, qui eos possidebant, ut donarent ei, propitius sit ei Deus et favens! et sustentarent vitam ejus, propitius sit ei Deus et favens! Dixit Deus, qui exaltetur! «Propheta propinquior est fidelibus, quam animae eorum.» — Scias autem, majore harum permissionum parte non usum esse eum, propitius sit ei Deus et favens! etsi licitum fuit ei. Et Deus est sciens.

Pars altera, quae cohaeret cum matrimonio. Huc pertinet permissio novem mulierum; et verum est, licitum fuisse ei, propitius sit ei Deus et favens! augere hunc numerum. Porro confirmatio matrimonii pronunciatione doni, secundum verissimam sententiam. Et verum est, terminatum fuisse. Quando initum erat matrimonium ejus pronunciatione doni, non necessaria erat dos pro pacto, neque pro introitu; quod aliter est apud alios. Huc spectat etiam confirmatio matrimonii ejus sine propinquo et sine testibus, quod refertur ad res illicitas secundum veram sententiam in universum. Quando appetebat matrimonium foeminae non nuptae, necesse ei erat consentire; hoc verum est et veritae erant aliis, quae expetebantur ex iis in matrimonium. De necessitate divisionis inter conjuges ejus duae exstant opiniones; Istaehrensis dicit: non necesse est; tum hoc est ex proprietatibus; alii autem dicunt: necesse est; tum non est ex iis. Viri docti posuerunt permultas harum quaestionum et alias ejusmodi generis, quae proficiscuntur ex quaestione fun-

مضطجعاً * وذكر بعض أصحابنا في انتقاض وضوءه * بلمس المرأة وجهين والمشهور الانتقاض *
 وفي اباحة مكثه في المسجد مع الجنابة وجهان لأصحابنا قال ابو العباس بن القاسم في
 التلخيص في ما يباح * وقال القفال وغيره لا يباح * وغلط امام الحرمين وغيره صاحب
 التلخيص في الاباحة * وقد احتج للإباحة بحديث عطية عن ابي سعيد عن النبي صلعم
 يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد فقري وغيرك * قال الترمذي حديث حسن *
 وقد يعترض علي هذا الحديث بأن عطية ضعيف عند الجمهور * ويجب بان الترمذي
 حكم بأنه حسن * ولعله اعتضد بما اقتضاه حسنه * وارجح له اخذ الطعام والشراب
 من ماكلهما المحتاج اليهما اذا احتاج هو صلعم اليهما ويجب علي صاحبهما البذل له صلعم
 وصيانة مهجته صلعم * قال الله تعالي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم * واعلم ان
 معظم هذه للمباحة لم يفعلها صلعم وان كانت مباحة له * والله اعلم *

النوع الثاني مغتف بالنكاح * فمذ اباحة تسع نسوة والصحيح جواز الزيادة
 له صلعم ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة علي الاصح * والاصح اخصار طلاقه في الثلث
 وقيل لا يخصر * واذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف
 غيره * ومنه انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وفي حال الاحرام علي الصحيح في الجمع *
 واذا رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الاجابة علي الصحيح ويحرم علي غيره خطبتها *
 وفي وجوب القسم بين امرأه وجهان قال الاصطخري لا يجب فيكون من المصائب *
 وقال الاخرن يجب فليس منها * وبني الاحباب اكثر هذه المسائل وتظاهرها علي اصل

aspectus furtivus i. e. nutus capitis vel manus vel hujusmodi ad permissionem interfectionis vel percussionis et aliarum rerum, quod est contrarium ejus, cujus conditio conspicua et nota est. — Neque primus preces dixit pro mortuo, qui habebat aes alienum, nec reliquerat, quantum debebat, sed permisit sociis suis preces dicere pro eo. Et dissentiant viri docti nostri, num ei vetitum fuisset, preces dicere, nec ne. Postea abrogavit hoc et preces dixit pro eo et solvit ejus debitum.

Pars posterior, de matrimonio. Huc pertinet retentio mulieris, quae respuebat ejus matrimonium. Recta sententia, quam statuunt viri docti nostri, est, hoc vetitum fuisse. Dicunt nonnulli eorum: Non reliquit eam honoris erga. Porro huc spectat matrimonium cum Christiana vel Judaea; et recte contendunt viri docti nostri, hoc ei vetitum fuisse. Hac de re disserunt Ben Soraig, Abu Sa'id Istacherensis et Kâdi Abu Hanid el-Marwarrudi. Et dixit Abu Ishak el-Meruzi, non esse inter prohibita. Hinc duae exeunt sententiae in habendo pro concubina ancillam Christianam vel Judaeam et in matrimonio cum ancilla Moslemica. Sed verum est, habere pro concubina Christianam vel Judaeam licitum, et ducere Moslemicam vetitum esse; et quod attinet ad ancillam Christianam vel Judaeam, definierunt plurimi, matrimonium ejus ei vetitum fuisse; et conjunxit el-Hannâti utramque sententiam. Prolabuntur autem scriptores hoc loco longius quam convenire mihi videtur huic libro.

Sectio tertia, allevationes et permissiones. — Id, quod permissum erat ei, propitius sit ei Deus et favens! praeter alios, duabus constat partibus, quarum altera non cohaeret eum matrimonio. Huc pertinet continuatio jejunii et electio partis praedae ante divisionem, ex puellis et aliis rebus. Nominatur haec electio *صَتِي* et *صَتِيَّة*, cujus forma pluralis est *صَتِيَّات*. Porro quinta pars quintae partis tributi et praedae et quatuor quinque partium praedae et introitus in Meccam sine veste peregrinatorum et permissio pugnandi in ea tempore quo intravit eam die expugnationis. Illi contigit, ut absolvisset scientiam suam, quod in aliis aliter est; et ut judicaret sibi et proli suae, et testaretur sibi et proli suae et acciperet testimonium ejus, qui testari vellet ei, et sibi exeitaret aliquem a mortuis, nec dissoluta esset lotio

عليه خائفة الاعين وفي ابيه برأس او يد او غيره الى مباح من قتل او ضرب ونحوهما علي خلاف ما يظهر وبشعر به الحال . وكان لا يصلي اولاً علي من مات وعليه دين لا ونا، له وبأذن لاصحابه في الصلوة عليه واختلف اصحابنا هل كان يحرم عليه الصلوة ام لا * ثم نسخ ذلك وكان يصلي عليه وتوفي دينه من عنده . القسم الثاني في النكاح * فنه امسآك من كرهت نكاحه والصحيح عند اصحابنا تحريمه وقال بعضهم كان لا يفارقتها تكرماً * ومنه نكاح الكتابية والاصح عند اصحابنا انه كان محرماً عليه وبه قال بن سريج وابو سعيد الاصطخري والقاضي ابو حامد المرورودي * وقال ابو احنف المرزبي ليس بحرام * ويجري الوجهان في التسري بالامة الكتابية ونكاح امة المسلمة لكن الاصح في التسري بالكتابة الحد وفي نكاح امة المسلمة التحريم واما امة الكتابية فمقطوع الجهور بان نكاحها كان محرماً عليه وطرده الحنطاي الوجهين * وقرع الاصحاب هنا تغريعات لا اراها لابقة بهذا الكتاب .

الضرب الثالث التخفيفات والمباحات وما ابج له صلعم دون غيره نوعان احدهما لا يتعلف بالنكاح * فنه الوصال في الصوم واصطفاً ما يختاره من الغنمة قبل القسمة من جارية وغيرها * ويقال لذلك المختار الصبي والصفية وجمها صغياً * ومنه خمس الخس في النفي والغنمة اربعة اخماس النفي ودخول مكة بلا احرام وياحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح * وله ان يقضي بعلمه في غيره خلاف * والحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له ويجبي الموات لنفسه ولا ينتقض رضوه بالنوم

schae, quae huc spectat. — Eodem pertinet necessitas patienter agendi cum hostibus, quamquam multitudine praestabant et superabant imbecillem. Porro huc spectat solutio aeris alieni, si quis moriens aes alicnum habebat, nec relinquebat quantum debebat. Et dicitur: Solvebat pro eo honoris causa, non quia debuit; sed rectior est sententia virorum doctorum nostrorum, necessarium fuisse. Dicitur quoque: Necessae erat ei, propitius sit ei Deus et favens! si quid vidit, quod placuit ei, ut diceret: Tibi adsum, ut vita sit vita aeterna. Attinet quoque ad hanc sectionem de matrimonio, necesse ei fuisse, ut optionem daret mulieribus suis repudiandi et eligendi cum. Dicunt nonnulli virorum doctorum nostrorum, hanc optionem voluntariam fuisse, sed verum est, eam fuisse necessariam. Itaque postquam iis optionem dederat, eligebant eam et mansionem vitae aeternae. Et vetitum ei erat in matrimonium ducere praeter illas et permutare eas aliis, substituendo alias pro iis, ob praestantiam actionis earum. Dixit Deus, qui exaltetur! Non erit licitum tibi uxores posthac ducere, neque commutare cum illis alias uxores. Deinde hoc abrogatum est, ut esset gratia Legato Dei, propitius sit ei Deus et favens! praeter eas in matrimonium ducendi foeminas, quas nemo sibi conjuges expeteret. Nam dixit Deus, qui exaltetur! Nos certe licitas fecimus tibi uxores tuas, quibus dedisti dotes earum, cetera. Dissentiunt autem viri docti nostri, num vetita fuisset dimissio earum post electionem. Verius est, hoc non vetitum fuisse; et tantummodo vetita est permutatio, qua non continetur dimissio.

Sectio secunda, quid proprium ejus erat ex rebus ei vetitis, ut praemium pro abstinentia ejus sit maximum. Hic duae sunt partes, prior de rebus extra matrimonium. Huc pertinent poesis et scriptura, item eleemosyna. De eleemosyna, quae sponte datur, duo exstant dicta Schafeji, quorum rectius est, eam ei vetitam fuisse. Quod attinet ad coenam, in qua discumbunt, et esum alii et caepae et porri, haec ei exosa erant, quamquam revera non erant vetita, secundum verissimam sententiam; et dicunt nonnulli virorum doctorum nostrorum ea vetita fuisse et vetitum ei erat, quando indutus erat vestibus, detrahere eas, donec occurreret hosti et pugnaverat. Et dicitur exosum fuisse, sed recte contendunt viri docti nostri, id fuisse vetitum. Dicunt nonnulli virorum doctorum nostrorum, qui fusius hoc exponunt, si inceperat opus spontaneum, necessaria ei erat ejus perfectio; sed hoc levis est auctoritatis. Et vetitum ei erat figere oculos in rebus nitentibus mundi, quas expetunt homines. Vetitus ei erat

عليه * ومنه وجوب مصابرة العدو وإن كثروا وزيادوا على الضعف . ومنه قضاء دين من مات وعليه دين لم يخلف وفاة وقبل كان يقضيه تكريماً لا وجوباً * والاصح عند اصحابنا انه كان واجباً * وقبل يجب عليه صلعم اذا رأي شيئاً يوجب ان يقول لبئك ان العيش عيش الاخرة * ومن هذا الضرب في النكاح انه اوجب عليه التخيير نسائه بين مفارقتها واختيارها * وقال بعض اصحابنا كان هذا التخيير مستحباً والصحيح وجوبه فلما خبرهن اخترنه والدار الاخرة * فحرم عليه التزوج عليهن والتبديل بين مكافأة لهن علي حسن صنعتهن * قال الله تعالي لا تحدل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من اثروا * ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلعم بترك التزوج عليهن * فقال الله تعالي انا احللتنا لك اثراجك اللاتي آتيت اجورهن آية * واختلف اصحابنا هل حرم طلاقهن بعد الاختيار والاصح انه لم يحرم وانما حرم التبديل وهو غير مجرد الطلاق .

الضرب الثاني ما اختص به من المحرمات عليه ليكون الاجر في اجتنابه اكثر * وهو قسمان احدهما في غير النكاح * فمنه الشعر والحظ ومنه الركوة * وفي صدقة التطوع قولان للشافعي اصحهما انها كانت محرمة عليه * واما الاكل متكباً واكل الثوم والبصل والكرات فكانت مكروهة له غير محرمة في الاصح وقال بعض اصحابنا محرمات * وكان يحرم عليه اذا لبس ملابسه ان ينزعها حتي يلقى العدو ويقاتل وقبل كان مكروهاً والصحيح عند اصحابنا تحريمه * وقال بعض اصحابنا تفرهاً علي هذا انه اذا كان شرع في تطوع لزمه اتمامه وهذا ضعيف * وكان يحرم عليه مد العين الي ما اتبع به اللسان من نثرة الدنيا وحرم

in hoc libro, in quo constitui commemorare nonnulla praestantissimorum nonnum et quid cohaeret cum iis, et rebus commemoratis commone de eo, quod missum feci. Attamen mihi propositum erat nobilitare librum praemittendo nonnulla de conditionibus Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! in proemio ejus. Hoc nunc factum est, laus Deo! et quomodo non nobilitetur liber, qui exorditur conditionibus Legati, propitius sit ei Deus et favens! amati, electi, optimi hominum, sigilli Prophetarum, Imami reverentium, domini Legatorum, ducis sectae et Prophetae misericordiae, propitius sit ei deus et favens, et augeat eum dignitate et gloria penes se! Laus Deo, Domino mundorum!

De proprietatibus Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! in privilegiis, aliisque rebus. Hoc est caput praestans et mos est scriptorum nostrorum commemorandi id in initio libri de matrimonio, quoniam proprietates ejus, propitius sit ei Deus et favens! in matrimonio plures sunt, quam ceterae. Jamque collegi has in Horto summa diligentia, laus Deo! Hic autem liber non comprehendet magnam earum copiam, sed fragmenta earum breviter in eo commemorabo, juvante Deo, qui exaltetur! — Dieunt viri docti nostri proprietatum ejus, propitius sit ei Deus et favens! esse quatuor.

Sectio prima, quid proprium erat ejus, propitius sit ei Deus et favens! ex rebus necessariis. Dieunt: Praestantia ejus erat multitudo virtutum et graduum altissimorum; neque qui conciliare sibi student gratiam Dei, qui exaltetur! accedunt similibus officiis, atque ille imperat iis, sicut aperte hoc exponit traditio vera. Tradidit Imamus Meccae et Medinae a nonnullis viris doctis nostris, praemium operis imperati superare praemium operis spontanei septuaginta gradibus; et illi nituntur hac in re traditione. Ad hanc sectionem pertinent quoque preces antemeridianae, item dies solennes sacrificii et dies sacrificii in monte 'Arafa et vigiliae et defretio dentium et consultatio. Et recta sententia, quam statuunt viri docti nostri, est: necessarias ei fuisse has res, et dicitur fuisse leges. Item statuunt, dies sacrificii in monte 'Arafa esse quidquam aliud, quam vigiliae; et verum est, vigiliarum necessitatem abrogatam esse religione ejus, propitius sit ei Deus et favens! sicut abrogatae sint in religione populi; et haec est sententia Schafeji, gratum habeat eum Deus! Dixit Deus, qui exaltetur! •Et partem noctis pervigila in legendo Korano, hoc tibi opus spontaneum. In Veritate Moslemi traditio est Aje-

إلى نُبَيْذٍ من عبود الأسماء وما يتعلّف بها وفيها ذكرته تنبيهاً على ما تركته على كس
مقصودي تشريف الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول الله صلعم في أوله وقد حصل ذلك
ولله الحمد وكيف لا يشرف كتاب صِدِّيرِ باحوال الرسول المصطفى صلعم والحبب المحبتي
خيرة العالم وخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين هادي الأمتة ونبي
الرحمة صلعم وزاده فضلاً وشرناً لديه والحمد لله رب العالمين ❦ فصل

في خصائص رسول الله صلعم في الأحكام وغيرها * وهذا فصل نفيس وعادة
أصحابنا بذكره في أول كتاب النكاح لأن خصائصه صلعم في النكاح أكثر من غيرها *
وقد جمعها في الروضة مستقصاً ولله الحمد * وهذا الكتاب لا يحتل بسطها ناشر فيه إلى
مقاصدها مختصرةً إن شاء الله تعالى ❦ قال أصحابنا خصائصه صلعم أربعة أضرب الأول ما
اختص به صلعم من الواجبات * قالوا والحكمة فيه زهادة الزلني والدرجات العلي *
فلم يتقرب المتقربون إلى الله تعالى عمل أداء ما انترض عليهم كما صرح به الحديث
الصحيح * ونقل إمام الحرمين عن بعض أصحابنا أن ثواب الغرض يزيد على ثواب النفل
بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث ❦ في هذا الضرب صلوة الضحى * ومنه الأخصبة
والوتر والتهجد والسواك والمشاورة * والصحيح عند أصحابنا أنها واجبات عليه وقيل
سنة * والأصح عند أصحابنا أن الوتر غير التهجد * والصحيح أن التهجد نسخ
وجوبه في حق صلعم كما نسخ في حق الأمتة وهذا هو المنصوص للشافعي رحمه الله ❦
قال الله تعالى ومن الليل تتهجد به ناقله لك * وفي صحيح مسلم عن عائشة ما يدل

Equus alius nominatur Schanīgā, quo vehens in curriculo equorum superior discescit. Alius equus nominatur Mortāgez (fragorem edens), quem emit ab Arabe campestri, cui testimonium dedit Hozaīma Ben Thābet. Dixit Sahl Ben Sa'ad: Erant Legato Dei, propitius sit ei Deus et favens! tres equi: Lezāz, cum Kesra literae Lam et duobus Ze; 'Tareb, cum Fatha literae 'Ta, puncto diaeritico instructae et Kesra literae Re; et Lohaif cum Damma literae Lam et Fatha literae Ha sine puncto, aut secundum alios cum puncto diaeritico; dicitur quoque Nohaif cum Nun. Et quod attinet ad Lezāz, obtulit eum ei el-Mokaukes, et Lohaisum obtulit ei Rabi'a Ben Abil Berā, cui pensavit eum parte praedae; et 'Tarebum obtulit ei Furuḥ Ben 'Amr Ġodāmita. Erat ei praeterea equus, nominatus el-Ward, quem obtulit ei Tāmmim Dārīta; deinde dedit eum 'Omaro et hic viro euidam; deinde venim expositus est. — Mula ejus, propitius sit ei Deus et favens! erat Duldul, cum Damma ambarum literarum Dal sine puncto, qua vectus est in itineribus; et vixit post eum, propitius sit ei Deus et favens! donec ei provectae aetate decidebant dentes. Pabulum ejus erat hordeum ipsaque mortua est in Jambo'. Traditur nobis in chronico Damasci per ordines (traditorum), eam superstitem fuisse, donec pugnasset equitans in ea 'Alī Ben Abi 'Tāleb, gratum habeat eum Deus! sub chalifatu suo adversus Charegītas. — Camela ejus, propitius sit ei Deus et favens! erat 'Ad'bā, cui etiam nomina Ġād'ā et Kaḡwa. Ita traditum est nobis a Mohammede Ben Ibrahim Taimita, haec nomina tria fuisse camelae uni et idem ab aliis confirmatur; alii contra dicunt, tres fuisse camelas. — Habebat quoque asinum, nomine 'Ofair, cum Damma literae 'Aīn sine puncto et Fatha literae Fe, vel, auctore Kādī 'Ijād, cum Gain punctato; sed consentiunt, eum hac in re in errorem incidisse. Mortuus est 'Ofair in peregrinatione valedictionis. — Interdum habebat etiam viginti camelas lactantes et centum oves, tres hastas, tres areus et sex enses, inter quos Dul-Fakār, quem extra praedam insuper accepit die Bedrensi et idem est, in quo vidit visiones die Ohod; et duas loricas et scutum et annulum signatorium et cyathum crassum ligneum et vexillum nigrum quadratum variegatum et signum album aut, ut alii dicunt, nigrum.

Scito autem, res Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! ejusque opes et id, quo honoravit eum Deus et praeclara ejus facta, quibus prae hominibus accumulavit eum, propitius sit ei Deus et favens! innumerabilia esse, neque fieri posse, ut in exponendis iis summa diligenter adhibeatur, praecipue

آخر يقال شاجة وهو الذي سابق عليه فسيف * وفرس آخر يقال له المرعجر وهو الذي
اشتراه من الاعرابي الذي شهد له حزيمة بن ثابت * وقال سهل بن سعد كان لرسول الله
صلعم ثلاثة افراس لثران بكسر اللام ويزابن والظرب يفتح الظاء المعجمة وقيل الحنيفة والرأه والحنيف
بضم اللام وفتح الحاء المهملة وقيل بالمعجمة وقيل الحنيفة بالنون * فاما لثران فاهداه له
المؤرقس والحنيف اهده له رببعة بن ابي البراء نانا به عليه فرابض والظرب اهده له
فرد بن عمرو الجذامي * وكان له فرس يقال له الورد اهده له عجم الدارقي ثم وهبه
لعمر ثم وهبه لمر لرجل ثم وجده بباع * وكان له صلعم بغلته دلدل بضم الدالين
المهملتين يركبها في الاسفار وعاشت بعده صلعم حتى كبرت وذهبت اسنانها وكان يحش
لها الشعير وماتت يبيع وروينا في تاريخ دمشق من طرق انها بقيت حتى تاتل عليها
علي بن ابي طالب رضه في خلافته الخوارج * وكان له صلعم ناقته العضا ويقال لها
الجذعا والقصوي * هكذا روينا عن محمد بن ابراهيم النهدي ان هذه الاسماء الثلاثة
لناقة واحدة وكذا قال غيره وقيل هي ثلث * وكان له حمار يقال له عفر بصم العبن
المهملة وفتح الفاء وذكره القاضي عياض بالغبن المعجمة واتفقوا علي تغلظله في ذلك * مات
عفر في حجة الوداع * وكان له في وقت عشرون لقصاة ومائة شاة وثلاثة ارباج وثلاثة
اقواس وستة اسبان منها ذو الفقار تنقله يوم بدر وهو الذي برى فيه الروبا يوم احد
ويعرغان وكرس وخاتم رقدح غلظ من خشب وراية سوداء مربعة من نمره ولواء ابيض وروي
اسود * واعلم ان احوال رسول الله صلعم وسيرة وما اكرمه الله به وما اتاضه علي العالمين
من آثاره صلعم غير محصورة ولا يمكن استقصاؤها ولا سها في هذا الكتاب الموضوع للأشارة

num per 'Omarum Ben Cha'ttâb aut per Abu Ġehl; et nobilitavit eum Deus per 'Omarum, gratum habeat eum! — Et mala imprecatus est Sorâkæ Ben Mâlek; et effudit eum equus in terra dura et haerebant ejus pedes in ea. Ille deinde imploravit eum, fidem promittens et petiit ab eo, ut fausta ei precetur. Et precatus est Deum, ut immunem reddat 'Alium a calore et frigore; neque iterum affecit eum calor, nec frigus. Et fausta precatus est Hodaiac illa nocte, qua misit eum, ut ferret nuntium pugnae Alzâb, ne afficiatur frigore; neque affecit eum, donec rediit. Et fausta precatus est Ibn 'Abbâs, ut institueret eum Deus religione; et ita factum est. Et mala imprecatus est 'Otbae Ben Abi Lahab, ut dominum praeficeret ei Deus unum ex canibus ejus; et interfecit eum leo in Zerka. Et flagitavit descensum pluviae, quando petierunt hoc ab eo ob pluviae penuriam, neque tenuiores quidem nubes in coelo erant. Et colligebantur nubes instar montium et effundebant pluviam usque ad hebdomam sequentem, ita ut peterent ab eo, ut pluviam desinere faceret. Staturque desiit et deambulabant homines in sole. Et fausta precatus est Abu 'Talla, ejusque foeminae Omm-Solain, ut fortunaret eos Deus in nocte geniali; et ita factum est. Nam partum tulit et edidit 'Abdollam; et novem ejus filii omnes docti erant. Et bona precatus est matri Abi Horaira, gratum habeat eum Deus! ut adduceretur ad Islamismum. Et exiit Abu Horaira et reperit lavantem se; jamque Islamismo addieta fuit. Et precatus est Omm-Kais, filiae Mohçani, sorori 'Okasehae longam vitam; nec nobis nota est mulier, quae tam diu vixerit. Narrat hoc en-Nasâi in capitibus de lotione mortuorum. — Et projecit infideles die Honain manipulo pulveris et dixit: Deformentur faeies. Et fugavit eos Deus, qui exaltetur! et impleti sunt oculi eorum pulvere. Et egressus est contra centum Koraiselitas, qui exspectabant eum, ut afferrent ei dannum. Sed coniecit pulverem in capita eorum et discessit non visus.

Inter equos, quos habebat, propitius sit ei Deus et favens! primus erat es-Sakb (alacer), cum Fatha literae Sin sine punctis discretivis et Kef quiescente et Be uno puncto iustrueta. Candicans erat, albis pedibus, tamen non omnibus; hic est primus equus, quo vehens expeditionem suscepit.

بعز الله الاسلام ببحر بين الخطاب ان باي جهل فاعز الله ببحر رضى * ودعا علي سراقه بن
 مالك فارتطمت به قرسه في جلد من الارض وساخت قواهمها فيها ففاداه بالامان وسأله
 الدعاء له * ودعا لعلي ان يذهب الله عنه الحر والبرد فلم يكن يجرد حرًا ولا بردًا *
 ودعا لحذيفة لبله بعشه بائي بخير الاحزاب ان لا يجرد بردًا فلم يجده حتى رجع * ودعا
 لابن عباس ان يفتح الله في الدين فكان كذلك * ودعا علي عتبه بن ابي لهب ان
 يسقط عليه كلباً من كلابه فقتل الاسد بالزرقا * ودعا بغزول المطر حين سألوه ذلك
 لتسقط المطر ولم يكن في السماء فترعد فثار صحاب امثال الجبال ومطروا الي الجمعة الاخرى حتى سألوه ان
 يدعو برفعه فدعا فارتفع وخرجوا بمشون في الشمس * ودعا لابي طلحة وامرأته أم سلمة
 ان يبارك الله لهما في ليلتهما فكان كذلك فحملت فولدت عبد الله فكان من اولاده
 تسعة كانوا علماء * ودعا لام ابني هريرة رضي الله عنه بالهداية وذهب ابو هريرة
 فوجدها تغتسل وقد اسلمت * ودعا لام قيس بنت محصن اخت عكاشة بطول العمر
 فلا تعلم امرأة عمرت ما عمرت يراه النساء في ابواب غسل الميت * وروي الكفار يوم
 حين بقبضة من تراب وقال شاعت الوجوه فهزمهم الله تعالي وامتلأت اعينهم تراباً *
 وخرج علي مائة من قرش ينتظرونه ليفعلوا به مكروهاً فوضع التراب علي رؤسهم
 ومضي ولم يرو * فصل

كان له صلعم اقراص ناول فرس ملكه السكب بفتح السين المهملة واسكان
 الكان وبالبا الموحدة وكان اثره صحيحاً طلف الجني وهو اول فرس غزا عليه * وفرس

Syriam et Irakam; et Moslemos collecturos esse tres exercitus: exercitum in Syria, exercitum in Jemana et exercitum in Irâka; et occupaturos eos Egyptum, terram, in qua utuntur pondere Kirâta, et benefacturos esse ejus incolis et clientelam et misericordiam iis praestaturos; et Owaisum el-Karani adventurum ad eos eum auxilio Jemanensium; hic lepra laborabat et ab ea sanatus est excepta macula denarii instar; et ita venit ad 'Omarum; et nonnullos homines gentis suae verum secutores, eorumque numerum multiplicaturum esse; et Adjutores interfectos fore, ejusque vestigia secutores esse; neque homines omissuros esse interrogare, donec dixissent: Haec est creatura Dei, creatura nova; et Ruwaifa'm Ben Thâbet longam vitam acturum esse, et 'Ammâr Ben Jaser interfectum fore a gente rebeli, et hanc gentem fore dissipatam et pugnam fore inter eos, et ignem exiturum esse a terra Hegâz et quae sunt generis ejusdem. Quae acciderunt omnia, sicut commemoravit, propitius sit ei Deus et favens! aperte et aecurate. Porro dixit Thâbetu Ben Kais: Vitam perages laudatam et interficeris sanetus martyr; et vitam peregit laudatam et martyrio pro Dei causa ocebuit in Jemana. 'Othmano dixit: Continget ei calamitas magna. Et dixit de Moslemo quodam: Pugnabit pugnam atroceam, quum sit ex populo ignis; et ille interfecit se ipsum. Et venit ad eum Wâbeçâ Ben Ma'bad, ut interrogaret eum de justo et illicito; tum dixit: Tu venisti, ut interrogares de justo et illicito. 'Alio et ez-Zobairo et el-Makdâdo dixit: Ite in hortum Chaeh, nam ibi est mulier, in pilento camelino vehens, eum epistola. Et invenerunt eam; illa autem id negabat; deinde eduxit epistolam ex eincinno suo. — Et dixit Abu Horaira, quando furatus erat Satanas dactylos, eum rediturum; et rediit. Et dixit uxoribus suis: Quae vestrum longissimas habet manus, celerrime me sequetur. Et ita factum est. Et 'Abdollah Ben Selâm dixit: Tu Islamismo adhaerebis, donec morieris. — Porro fausta precatus est, propitius sit ei Deus et favens! Anaso, ut multiplicarentur ejus opes et proles et longam vitam ageret. Et duravit ejus vita supra centum annos, nec fuit quisquam Adjutorum ditior illo; et sepultus est a filiis suis natis ex eo centum et viginti ante adventum peregrinatorum Meecae, praeter ceteros. Quod aperte expositum est in Veritate Bochâri et alias. Item precatus est, propitius sit ei Deus et favens! a Deo, ut nobilitaret Islamis-

والعراق وبانَّ المسلميْن يَجْدُونَ ثَلَاثَةَ أَجْنَادٍ جُنْدًا بِالشَّامِ وَجُنْدًا بِالهِنِّ وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ
 وَبِأَنَّهُمْ يَفْتَحُونَ مِصْرًا أَرْضًا يَذْكَرُ فِيهَا الْقِرَاطُ نَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا نَآنَ لِيَمِ ذِمَّةَ مَرْجَأًا
 وَبِأَنَّ أَرِيْسَ التَّرِيْبِيَّ يَقْدِمُ عَلَيْكُمْ فِي أَمْدَادِ أَهْلِ الْهِنِّ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرِيْبِي مِنْهُ أَلَّا قَدِرَ
 دَرَهْمٌ فَقَدِمَ كَذَلِكَ عَلَيَّ عَمْرٌ وَبِأَنَّ طَابُغَةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَيَّ الْحَقِّ وَبِأَنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَبِأَنَّ
 الْإِنصَارَ يَقْتُلُونَ وَبِأَنَّ الْإِنصَارَ يَلْقَوْنَ بَعْدَهُ أَثْرَهُ وَبِأَنَّ النَّاسَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا
 هَذَا خَلْفُ اللَّهِ الْخَلْفُ الْحَدِيثُ * وَبِأَنَّ رُبَيْعَةَ بِنْتُ ثَابِتٍ تَطُولُ بِهِ الْحَيَوةُ وَبِأَنَّ عَمَّارَ بْنَ
 هَاشِمٍ يَقْتُلُهُ النَّفْثَةُ الْبَائِغِيَّةُ وَبِأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ سَتَفْتَرِقُ وَبِأَنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ * وَبِأَنَّهُ
 سَيُخْرَجُ نَارٌ بِأَرْضِ الْجَبَارِ وَأَشْبَاهُ هَذَا * فَوَقَعَتْ كَلِمَاتُهَا كَمَا ذَكَرَ صَلْعَمٌ وَالْحَقَّةُ جَلْبِيَّةٌ *
 وَقَالَ ثَابِتٌ بِنْتُ قَيْسٍ تَعْبِشُ جَدًّا وَتَقْتُلُ شَهِيدًا فَعَاشَ جَدُّهَا وَاسْتَشْهَدَ بِالْهَامَةِ * وَقَالَ
 لِعَمَّانَ تُصَبِّبُهُ بِلُويِ شَدِيدَةً * وَقَالَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقَاتِلُ قِتَالًا شَدِيدًا وَآتَهُ مِنْ
 أَهْلِ النَّارِ فَيَقْتُلُ نَفْسَهُ * وَجَاءَ وَابِصَةَ بِنْتُ مَعْبُدٍ يَسْأَلُهُ مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ جِبَّتُ تَسْأَلُ
 عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ * وَقَالَ لِعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَالْمَقْدَادِ أَذْهَبُوا إِلَى رَوْضَةِ خَازِنٍ نَآنَ هُنَاكَ ظَعْمِيَّةٌ
 مَعَهَا كِتَابٌ فَوَجَدُوهَا نَآنَكَرْتَهُ ثُمَّ أَخْرَجْتَهُ مِنْ عَقَاصِهَا * وَقَالَ لَآيِ هَرِيرَةَ حِينَ سَرَقَ
 الشَّيْطَانُ التَّمْرَ أَنَّهُ سَبْعُونَ فَعَادَ * وَقَالَ لِأَنْوَاجِدِ أَطَوَّلَكُنَّ يَدًا أَسْرَعَكُنَّ لِحَافًا فِي فِئْكَانٍ
 كَذَلِكَ * وَقَالَ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنْتَ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ * وَدَعِيَ صَلْعَمٌ لَانِسَ بَانَ
 بِكَثْرَةِ مَالِهِ وَوُلَادَةِ وَيَطُولُ مَرَّةً * فَكَانَ كَذَلِكَ عَاشَرَ فَوْقَ مِائَةِ سَنَةٍ رَلِمَ بِكُنَّ أَحَدًا
 مِنَ الْإِنصَارِ أَكْثَرَ مَالًا مِنْهُ * وَوَدَى مِنْ أَوْلَادِهِ الذُّكُورَ لَصَلْبِهِ مِائَةَ وَعِشْرِينَ ابْنًا قَبْلَ
 قُدُومِ الْجَبَّاحِ سُوِيٍّ غَرَمَهُ * وَهَذَا مِصْرَحٌ بِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ * وَدَعَا صَلْعَمٌ أَنْ

ciendum aliquid huic Korano simile, non perficerent simile quid, etiam si alii aliis opitularentur. Et superavit eos, propitius sit ei Deus et favens! in hac re, contemnens multitudinem eorum et eloquentiam et vehementiam hostilitatis usque ad hunc diem.

Quod autem attinet ad miracula cetera, non possunt enumerari unquam, quia permulta sunt et renovata et aucta. Attamen commemorabo ex iis exempla, sicut fissuram lunae et quod seaturire fecit aquam ex digitis suis, et multiplicationem aquae et cibi, laudationem panis, erepiti trunci arboris, benedictionem lapidis, locutionem femoris veneno infecti, incessum arboris ad eum, conventum duarum arborum remotarum earumque reditum ad loca sua, muletum ovis anniculae et quod restituit oculum Kotadae Ben en-No'màn, postquam prociderat et fuerat in ejus manu, ad locum suum, ita ut postea percipi nequiret; et osculationem oculorum 'Alii, qui lippitudine laborabat et sanus evasit ab hoc tempore; permulsionem pedis 'Abdolla Ben 'Atik, qui illico sanus evasit; praedictionem cladis idololatrarum die Bedrensi (مصراع in eo sensu, quo ad hominem spectat); neque incurrerant foederati eorum; et praedictionem occisionis Obii Ben Chalaf. Item praedixit, nonnullos homines gentis suae occupaturos esse mare, inter quos Omm-Heràm, et ita factum est; et se aperturum esse genti suae, quae celatae ei essent regiones terrae orientales et occidentales; et thesauros Cosroes erogaturam esse gentem suam in via Dei, qui honore et laude celebretur! et se metuerre genti suae de eo, quod aperiretur ei ex pulchritudinibus mundi; et thesauros Persiae et Romae apertos fore nobis; et Sorakam Ben Mäleik ornatum fore armillis Cosroes; et per Hasanum Ben 'Ali pacem facturum esse Deum inter duo agmina magna Moslemorum et Sa'adum Ben Abi Wakkâç in vivis futurum esse, donec utilitatem cepissent ex eo homines et nocuissent ei alii; et en-Nagâsehium moriturum esse eodem die, quum ille in Habessinia erat; et el-Aswadum el-'Anasium interfectum fore ipsa nocte, quum ille in Jemana erat; et Moslemos pugnatos esse in Tureas praeditos oculis pusillis, facibus latis et collisibus; et Jemanam occupatam fore ab iis, item

والجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً
فَتَعَدَّاهُمْ صُلْعَمَ بِذَلِكَ مَعَ تَكَابُرِهِمْ وَقَصَاحَتِهِمْ وَشِدَّةِ عِدَاوَتِهِمْ إِلَيَّ هَوْمَنَا هَذَا فِي فِصْلِ

وأما المعجزات غيره فلا يمكن حصرها إبدأً لأنها كثيرة جداً ومتجددة متزايدة
ولكن اذكر منها امثلةً كانشقاق القمر ونبع الماء من بين اصابعه وتكثير الماء والطعام
وتسبيح الطعام وحنين الجذع وتسليم الحجر وتكليم الذراع المسومة ومشى الشجرة اليه
واجتماع الشجرتين المتباعدين ورجوعهما الي مكانهما ودرور الشاة الجاهل وردة عين
قتادة بين النعمان بعد ان نَدَرَتْ وَصَارَتْ فِي يَدِهِ إِلَيَّ مَكَانَهَا فَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ بَعْدَ ذَلِكَ
وَتَقْبِيلُهُ فِي عَيْنِي عَلِيٌّ وَكَانَ أَرْمَدَ فَبُرِّيٌّ مِنْ سَاعَتِهِ وَمَسَّحَهُ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَتَبِكَةَ فَبَرَأَتْ
فِي الْحَالِ وَإِخْبَارُهُ بِمَصَارِعِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا مِصْرَعُ فَلَانَ فَلَمْ يَبْعُدُوا مِصْرَعِهِمْ
وَإِخْبَارُهُ بِقِتْلَةِ أَبِي بِنِ خَلْفٍ وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِهِ يَخْرُونَ الْبَحْرَ وَإِنَّ أُمَّ جِرَامٍ
مِنْهُمْ فَكَانَ كَذَلِكَ وَبِأَنَّهُ يَفْتَحُ عَلَيَّ أُمَّتَهُ مَا تُرِيِّي لَهُ مِنْ مِشَارَتِ الْأَرْضِ وَمِغَارِبِهَا وَبِأَنَّ كَمُوذَرَ
كَسْرِيَّ يَنْفِقُهَا أُمَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَرَّ وَجَدَّ وَبِأَنَّهُ يَخَانُ عَلَيَّ أُمَّتَهُ مَا يَفْتَحُ عَلَيْهِمْ مِنْ نَهْرَةِ
الدُّنْيَا وَبِأَنَّ خَزَائِمَ نَاهِسَ وَالرَّوْمَ يَفْتَحُ لَنَا وَبِأَنَّ سَرَاتِقَةَ بِنِ مَالِكِ بْنِ سُوَيْرٍ بِسُوَيْرِيَّ كَسْرِيَّ وَبِأَنَّ
الْحَسَنَ بِنِ عَلِيٍّ يَصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَبِأَنَّ سَعْدَ بِنِ أَبِي
وَقَاصٍ يَعْطِشُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ أَقْوَامٌ رِيضٌ بِهِ آخَرُونَ * وَبِأَنَّ النَّجَّانِيَّ مَاتَ هَوْمَكُمْ هَذَا
وَهُوَ بِالْحَبِيشَةِ * وَبِأَنَّ الْأَسْوَدَ الْعَنْسِيَّ قَتَلَ لِبِلْتَكَمِ هَذِهِ وَهُوَ بِالْهِنِّ * وَبِأَنَّ الْأَمْسَلِمِيَّ
يَقَاتِلُوا التُّرُكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ عَرَّضَ الرَّجُوعِ ذَلِكَ الْآنَ وَبِأَنَّ الْهِنَّ يَفْتَحُ عَلَيْهِمُ وَالشَّامَ

i. e. non commemorabantur mulieres. Inclinabant se homines ad eum reverentiâ et monitis advertebant animum. Veneratus est majores et misertus est minorum natu; et honorabant eum egentem et conservabant peregrinum et educebant argumenta pro bono. Benigne traetabat amicos et honorabat generosum cujusque populi et præficebat eum ejus rebus. Visitabat amicos suos; neque erat inhonestus, neque talem se præbebat; nec malum malo referebat, sed condonabat et veniam dabat; neque ferit famulum, neque ancillam, neque ullum alium unquam, nisi quod dimieavit in via Dei. Neque optionem dabat duarum rerum, sed eligebat faciliorem earum, quod minime ei vitio duendum est. Et argumenta omnium, quae commemoravi, in libro *Veritatum* clara sunt. — Et conjunxerat Deus, qui laudationibus exaltetur! in eo, propitius sit ei Deus et favens! perfectionem indolentem et splendorem morum; et donaverat ei scientiam rerum praeteritarum et futurarum, omnemque beatitudinem et felicitatem, quamquam ille idiota nec legere nec scribere novit, nec praeceptorem ex hominibus habuit. Et dedit ei Deus, quod nulli alii hominum et elegit eum prae omnibus praeteritorum et futurorum temporum hominibus. Gratia Dei, ejusque pax illi, permanentes namque ad diem judicii! — Traditur in libro *Veritatum*, Anas Ben Mâlek, gratum habeat eum Deus! dixisse: Neque tetigi pannum, neque sericum, mollius manu Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! neque olfeci namquam odorem suaviorem odore Legati Dei; et servivi Legato Dei, propitius sit ei Deus et favens! decem annos, sed neque dixit mihi unquam: *Phy!* neque dixit ulli: *Feci hoc, cur tu hoc fecisti?* neque: *Ego non feci, sed tu fecisti hoc.*

Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! miracula manifesta et signa illustria eddidit, quorum sunt millia et celebria. Inter haec Koranus est miraculum manifestum et argumentum eminens; nec contigit ei falsum, neque ab antea neque ab postica parte. Revelatio est Sapientis, Laudati, qui irrita facit consilia faecundorum inter cujusque aetatis viros loquendi facultate pollentes, et defatigavit eos, ut afferrent Suram, similem Suris illius, etiam si auxilium peterent ab omnibus hominibus. Dixit Deus, qui exaltetur! *Die: Certe, si congregarentur homines et daemones ad perfici-*

الاصوات ولا يؤذني فيه الحرم اي لا يذكر النساء * يتعاطفون فيه بالتقوي ويتواضعون
 ويوقر الكبار ويرحم الصغار ويؤثرون المحتاج ويحفظون الغرب ويخرجون أدلة علي الحجره
 وكان يتألف اصحابه ويكرم كرم كل قوم ويوليده امرهم ويتفقد اصحابه ولم يكن
 ناحساً ولا متفحشاً ولا يجزي بالسببة السببة بل عفوا وبصفح ولم يضرب خادماً ولا امرأة
 ولا شياً قط الا ان يجاهد في سبيل الله وما خسر بين امرئين الا اختار ايسرهما ما لم يكن
 اثمًا ودليل كل ما ذكرته في الصحيح مشهورة وقد جمع الله سبحانه وتعالى له صلعم
 كمال الاخلاق وحسن الشيم وآتاه علم الاولين والآخرين وما فيه التجارة والفوز وهو
 امي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر واتاه ما لم يوت احدًا من العالمين واختاره
 علي جميع الاولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه دائمين الي يوم الدين ثبت في
 الصحيح عن انس من مالك رضى قال ما مسست دهباً ولا حريراً الا ان من كف رسول
 الله صلعم ولا شيمت راحة قط اطيب من راحة رسول الله ولقد خدمت رسول الله صلعم
 عشر شئني فما قال لي قط ان ولا قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت
 كذاي فصل

لرسول الله صلعم معجزات ظاهرة واعلام متظاهرات يبلغ الوفاء وي
 مشهورات * فيها القران المعجزة الظاهرة والدلالة الباهرة لا يأتبه الباطل من بين يديه
 ولا من خلفه تنزه من حكمهم جيد الذي اعجز البلغاء في انصاع الاعصار وانهاهم
 ان هاتوا بسورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق * قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الانس

visitavit aegrotos et respondit vocanti ipsum, et diviti et egeno, et vili et nobili; nec contemnendum censuit ullum. — Consedit interdum contractis manibus pedibusque, interdum forma quadrata; et discubuit aliquot tempus et multum quidem vel plurimum temporis, lumbos tibiasque contracta simul continens manibus. Edit tribus digitis, linxitque eos, et exhaustis tribus haustibus vasculum. — Loentus est paucis verbis, sed sensu plenis et ter repetivit orationem, ut intelligeretur; et pronuntiatio clara fuit ita ut facile eum intelligeret, quisquis eum audiret; neque locutus est, nisi opus erat; neque consedit, neque surrexit sine commemoratione Dei, qui exaltetur! — Vectus est equo, vel camelo, vel asino, vel mula; vel post tergram suam secum alium vehi fecit camela vel asino; non autem sivit alium ire post se. Saepe alligavit ventri suo lapidem ob inediam; et pernoctavit cum familia sine cibo. Lectus ejus, foliis refertus, in nuda terra erat. Parvi aestimavit opes hujus terrae omnes, quamquam dederat ei Deus, qui exaltetur! claves thesaurorum terrae omnium, noluit autem eos sumere, sed elegit pro iis vitam aeternam. Saepe, imo constanter collaudabat praestantiam risu medicis, et interdum risit ita ut apparerent dentes genuini i. e. dentes canini. Amabat aromata et abhorrebat ab odore foedo. Libenter joeatus est, sed semper verum dixit. Facile excusationem ab alio accepit. Et erat sicut Deus, qui exaltetur! descripsit enim: Jam quidem venit ad vos Legatus ex vobis ipsis, excellens, qui tollit, quod delinquitis, sedulus erga vos, cum fidelibus clemens, misericors. Iterum dixit Deus: Et ora pro iis, quippe oratio tua erit quies illis. Objuratio ejus erat explicatio, cur stipularentur homines stipulationes, quae non inessent libro Dei, qui exaltetur! neque aliis. Et hortabatur ad benignitatem et incitabat ad indulgentiam et clementiam et honestatem morum. Dextram manum movere solebat in lustrationibus suis et quando pedes incedebat et calceis indutus erat et in omnibus negotiis suis. Manus sinistra inserviebat ad latrinam et res molestas. Quando dormivit et decubuit, decubuit in dextra, ad Reblam conversus. Convivium ejus erat convivium sapientiae, verecundiae, fidei, custodiae, patientiae et constantiae; neque tumultus movebatur in eo, neque molestia affliciebantur mulieres,

النَّعْدَلُ يَهْرَقُ الثُّوبَ وَيَعُوذُ الْمَرْبُضُ * وَيَجِيبُ مِنْ دَعَاةٍ مِنْ غَيْيٍّ أَوْ فَقِيرٍ أَوْ ذَنْبِيٍّ * أَوْ شَرِيفٍ * وَلَا يَجْتَرُّ أَحَدًا وَكَانَ يَقْعُدُ تَارَةً الْقَرْصَا وَتَارَةً مَازِبَعًا وَاتَّكِيًا فِي أَوْتَاتٍ وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْتَاتِ أَوْ فِي أَكْثَرِهَا مُحْتَبِبًا بِبَدْبِهِ * وَكَانَ يَأْكُلُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَثَ * وَيَلْعَقُهُنَّ وَيَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِذَاءِ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَيَعْبُدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِنُفْعِهِمْ وَكَلَامُهُ بَيْنَ بَعْضِهِمْ مِّنْ سَمْعِهِ * وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ * وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى * وَرَكِبَ الْفَرَسَ وَالْبَعِيرَ وَالْجَاهِرَ وَالْبَغْلَةَ وَأَرْدَفَ مَعَهُ خَلْفَهُ عَلَى نَاقَةٍ وَعَلَى جَارِيَةٍ * وَلَا يَدْعُ أَحَدًا بِشَيْءٍ خَلَقَهُ وَعَصَبَ عَلَى بَطْنِهِ الْحَخْرَ مِنَ الْجُوعِ * وَكَانَ يَهْبِتُ هُوَ وَأَهْلُهُ اللَّيَالِي طَارِبِينَ * وَقَرَأَ شُهُ مِنْ أَمِّ حَشْوِهِ لَيْفٌ وَكَانَ مُتَنَلِّلًا مِنْ أَمْتَعَةِ الدُّنْيَا كُلِّهَا وَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَغَابِخَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ كُلِّهَا نَائِي أَنْ يَأْخُذَهَا وَاخْتَارَ الْآخِرَةَ عَلَيْهَا وَكَانَ كَثِيرَ الذِّكْرِ حَاتِمَ الذِّكْرِ جُلَّ مَحْكَةِ التَّبَسُّمِ وَمَحْكِكِ فِي أَرْوَاتٍ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَفِي الْإِنْتَابِ * وَيَحِبُّ الطَّبِيبَ وَيُكْرَهُ الرِّيحَ الْكَرْهِيَّةَ وَيَمْرَحُ وَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا وَيَقْبَلُ عَذْرَ الْمُعْتَذِرِ الْبَدِيءِ * وَكَانَ كَمَا رَضِعَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَرَبٌ عَلَيْهِ مَا عَنَّتُمْ حَرَبٌ عَلَيْهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ هَيْئًا رَحِيمٌ * وَقَالَ تَعَالَى وَصَلَّ عَلَيْهِمْ أَنْ صَلَّوْا تَعَلَّكُمْ سَكَنَ لَهُمْ * وَكَانَتْ مَعَابِيثُهُ تَعْرِضًا مَا بِأَلْ قَوْمٍ يَشْتَرُونَ شَرِطًا لِبَسْتٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَحْوِ ذَلِكَ * وَيَأْمُرُ بِالرِّفْقِ وَيَحْتَرِّمُ عَلَيْهِ وَيَهْتَبِي عَنِ الْعَرْنِ وَيَحْتَرِّمُ عَلَى الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَيَحِبُّ التَّهَيُّنَ فِي طَهْوَرِهِ وَتَرْجُلَهُ وَتَنْعَلَهُ فِي شَانِهِ كُلِّهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيَسْرِي لِحُلَاؤِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَدْبِي * وَإِذَا نَامَ وَاضْطَجَعَ اضْطَجَعَ عَلَى الْإِيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ * وَكَانَ مَجْلِسُهُ مَجْلِسَ حُكْمٍ وَجِبَاهُهُ أَمَانَةٌ وَصَبَاطَةٌ وَصِرٌّ وَسَكِينَةٌ وَلَا يَرْفَعُ فِيهِ

tire viros doctos, ipsum, propitius sit ei Deus et favens! interfuisse expeditionibus viginti septem et nocturnis incursionibus quinquaginta sex; et exposuit singulas secundum ordinem, quo acciderunt. Dicunt: Pugnavit autem nonnisi in novem: Bedrensi, ad Ohod, ad Fossam, cum Kora'ititis, cum Moctalekitis, ad Chaibar, in expugnatione Meecae, apud Honain et -Tâjef. Huc spectat dictum illud: Per vim expugnata est Mecca. Dicitur etiam: Pugnavit in valle Kora et sub vexillo et cum Nadiraeis. — Et Deus est sciens.

De natura et indole ejus, propitius sit ei Deus et favens. — Liberalissimus erat hominum, ejusque liberalitas erat maxima, quae cogitari postest in mense Ramadân, et pulcherrimus erat forma et indole, molissimus manibus, suavissimus odore, illustrissimus praestantia, optimus in amicitia, maxime strenuus, peritissimus Dei, addictissimus Deo, pius; nec succensuit sibi, nec vindictam cepit, et duntaxat iratus est, quum violarentur statuta Dei, qui honore et laude celebretur! Quando autem iratus est, nihil obstitit ejus irae, donec veritatem restitueret. Quum iratus esset, recessit et avertit vultum. Amice amplectebatur alios et excellebat omnibus modestia; peregit, quid opus erat populo suo; porrexit manum imbecilli, nec, si quid ab eo petitum erat, abuebat unquam. Hominum mitissimus fuit et modestior quam virgo quae cavet. Cognatorum et alienorum, potentium et infirmorum aequatum apud eum fuit jus omnium. Nec cibum respuit unquam, si appetebat, edebat eum, si non, eo abstinebat. Neque edit accumbens, neque de mensa; et edit quod facile paratum fuit, nec abstinuit se cibis permissis. Amabat fructus dulces et mel et plaueit ei cucurbita. Et dixit: Optimum obsonium est amicus intimus; et excellit 'Ājeseba inter foeminas, sicut panis intritus in vino inter ceteros cibos. Carissimum foeminarum ei erat braelium. — Dixit Abu Horaira (gratum habeat eum Deus!): excedens e vita Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! non satiatus fuit pane hordeaceo (significat ejus inopiam), et saepius per integrum mensem unum et alterum in nullo ejus cubiculo arsit ignis. Quotidianum victum sumsit ex donis, minime ex beneficiis; et remuneratus est dona. Consuit calceum et resarsit vestem; et

الاتفاق علي ان غزواته صلعم بنفسه سبع وعشرون غزوة وسراياه ست وخسون وعددها واحدة واحدة مرتبة علي حسب وقوعها * قالوا ولم يقاتل الا في تسع بدير واحد والمغندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف * وهذا الي قول من قال فتحت مكة عنوة وقيل تاتل بوادي القري وفي الغاية وبني النضير والله اعلم * فصل

في اخلاقه كان صلعم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان * وكان احسن الناس خلقا وخلقا والبنهم كفا واطيبهم رجحا واكملهم رجحا واحسنهم عشرة * وشجعهم واعلمهم بالله واشدهم لله خشية ولا بغضب لنفسه ولا ينتقم لها وانما بغضب اذا انتهكت حرمت الله عز وجل * لم يندب بغضب ولا يقوم لغضبه شي حتي يفتصر للحق * واذا غضب اعرض واشاح وكان خلقه القرآن وكان اكثر الناس تواضعا بتقصي حاجة اهله ويحفظ جناحه للضعفة وما سئل شيئا قط فقال لا * وكان احلم الناس وكان اشد الناس حياء من العذراء في حذرهما والتقرب والبعد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء * وما عاب طعاما قط ان اشتهاه اكله ولا تركه * ولا ياكل متكبرا ولا علي خوان * ولا ياكل ما تبسر * ولا يمتنع من مباح * وكان يحب الحلواء والعسل * ويعجبه الدبا وهو البقطين * وقال نعم الادام الحبل وفضل عابشة علي النساء كفضل الثريد علي سائر الطعام وكان احب النساء اليه الذراع * وقال ابو هريرة رضه خرج رسول الله صلعم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير * يعني للعدم وكان باي الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوتهم نار * وكان ياكل الهدية ولا ياكل الصدقة * ويكالي علي الهدية ويخصف

mismus. — Misit porro Mohammed Dihjam Ben Chalifa Kelbitam eum epistola ad Heraclium Magnum Romae Imperatorem, et 'Abdollam Ben Hodāfa es-Sahmi ad Cosroem, regem Persiae, et Hāteb Ben Abi Balta'a el-Lachmi ad Makaukesum, regem Alexandriae et Memphidis. Hic dixit: Bene! et prope fuit, ut Moslemus factus esset. Obtulit Legato Dei, propitius sit ei Deus et favens! Mariam Egyptiam, ejusque sororem Schirin, quam donavit Legatus Dei Hassāno Ben Thābet. — Et misit 'Amrum Ben el-'Āḩi ad duos reges provinciae 'Amān, qui Islamismum amplectebantur et otium suum supeditabant 'Amro et benefaciendo egentibus et jus dicendo in causis suis; neque reliquit eos, donec mortuus est Legatus Dei. Et misit Salit Ben 'Amru, Alidam in Jemamam ad Haudam Ben 'Ali Hanefitam. — Et misit Schogā'am Ben Wahēb el-Asadi ad Hārethum Ibn Abi Schemr, Gassanidam, regem provinciae el-Balkā in Syria. — Et misit socios fugae ad Omajjam Mahzumitam et ad Hārethum Hemjaritam. — Et misit el-'Alūm Ben el-Hādrami ad Monderum Ben Sāvi, 'Obaiditam, regem Bahrain, qui credidit et Moslemus factus est. — Et misit Aba Musa Aseh'aritam et Mo'ad Ben Ġebl ad totam Jemansam, ut ad Islamismum invitarent; et Moslemi facti sunt omnes Jemanenses, et reges et subditi.

Erant Mohammedi quatuor praecones: Belāl, Ibn Omm Mektum, in Medina, Abu Madura in Mecca, et Sa'ad el-Korat in urbe Koba. Et mili proposui exponere de iis in capitibus eorum, juvante Deo, qui exaltetur!

Constat ex libris veritatum, Prophetam, propitius sit ei Deus et favens! quater post fugam commoratum esse Meccae sacrorum peragendorum causa, quam visitationem 'Omra nominant; sed iter sacrum, Hegga dictum, semel tantum fecisse, nempe peregrinationem valedictionis, qua valediceret hominibus, decimo anno post fugam. — Expeditiones ipse, propitius sit ei Deus et favens! suscepit viginti quinque: et hoc notum est et traditur a Musa Ben Abi 'Okba et a Mohammede Ben Ishak et ab Abu Ma'sher et ab aliis scriptoribus itinerum et invasionum; alii numerant viginti septem. Tradidit Abu 'Abdolla Mohammed Ben Sa'ad in libro Classium, consen-

بن ابي طالب رحسن اسلامه * وارسل صلعم دِحَبَةَ بن خليفَةَ الكَلْبِيِّ بكتاب الي هِرَقْلَ
عظيم الرِّيمَ وعبد الله بن حذافة السَّهْمِيِّ الي كسري ملك نارس وحاطب بن ابي بَلْتَعَةَ
الذَّخْمِيِّ الي المَثُوتِسَ ملك الاسكندرية ومصر فقال خيرٌ وقارب ان يسلم واهدي لرسول
الله صلعم مارية القَيْطِيَّةَ واختها شيرزبن فوهيها رسول الله صلعم لحسان بن ثابت *
وارسل عمرو بن العاصي الي ملكي عمان ناسلما وخنلُبا بن عمرو وبن الصدقة والحكم فها
بينهم فلم يزل عندهم حتى توفى رسول الله صلعم * وارسل سليط بن عمرو العلوي الي
الهامة الي هودة بن علي الحنفي * وارسل شجاع بن وهب الاسدي الي الحارث ابن ابي
شمر القسائي ملك البلقا من ارض الشام * وارسل المهاجرين الي اُمَيَّةَ المحزومي الي الحارث
المحبري * وارسل ائلاء بن الحضرمي الي المنذر بن ساري العدي ملك البحرين فصَدَّتْ
واسلم * وارسل ابا موسي الاشعري ومعاذ بن جبل الي جيلة الهن داعبين الي الاسلام
ناسلم عامة اهل اليمن ملوكهم وسوقتهم * فصل

له صلعم اربعة من المؤذنين بلال وابن ام مكتوم بالمدينة وابو محذورة بمكة
وسعد القرظ بقبا وسهاتي بيان احوالهم في تراجعهم ان شاء الله تعالى * فصل

ثبت في الصحاحين ان النبي صلعم اعتمر اربع مر بعد الهجرة ولم يحج اذ
حجَّ الوداع التي رَدَّعَ الناس فيها سنة عشر من الهجرة * وغزا بنفسه صلعم خمساً وعشرين
غزوة هذا هو المشهور وهو قول موسي بن ابي عقبة ومحمد بن اسحق واي معشر وغيرهم
من ائمة السبر والمغازي وقيل سبعا وعشرين ونقل ابو عبد الله محمد بن سعد في الطبقات

De famulis ejus, propitius sit ei Deus et favens! — Ex his sunt Anas Ben Mâlek, Hind et Asma, duo filii Harethac Aslemitae, et Rabi'a Ben Ka'ab Aslemita. Et 'Abdolla Ben Mas'ud procurabat calceos; surgenti ei iuduxit eos et sedenti detraxit eos et portavit eos sub brachiis suis. 'Okba Ben 'Amer erat mulio Mohammedis et duxit mulam in itineribus; et Belâl praeco et Sa'ad, servus Abi Bekr veridici et Da Mehmaz, qui appellatur Mahabr (cum Be unico puncto instructo), filius fratris en-Nagâschi vel filius sororis ejus; et Bohair Ben Serah Laithita, qui vocatur Bekra, et Abu Derr el-Gefâri et el-Asla' Ben Scharik Ben 'Auf el-A'ragî et Mohâger, servus matris Selmae, et Abul-Samh. Gratos habeat eos Deus!

De scribis ejus, propitius sit ei Deus et favens! —

Commemorat el-Hâfi't Abul-Kasem in chronico Damasci horum fuisse viginti tres, eorumque nomina tradidit omnia secundum allegationes alienae auctoritatis. Sunt autem haec: Abu Bekr veridicus, 'Omar Ben el-Cha'ttâb, 'Othman, 'Ali, 'ez-Zobair, Obi Ben Ka'ab, Zaid Ben Thabet, Mo'avia Ben Abi Sofjân, Mohammed Ben Moslem, el-Arkam Ben Abil-Arkam et filii Ben Sa'id Ben el-'Äç, ejusque frater Châled Ben Sa'id Ben Thabet Ben Kais, Hantala Ben er-Rabi'a, Châled Ben el-Walid, 'Abdolla Ben el-Arkam, 'Abdolla Ben Zaid Ben 'Abd-Rabbib, el-'Ala Ben 'Otha, el-Mognaira Ben Scho'ba, es Segell; quibus addunt Schorahbil Ben Hasana. Dicunt: Et maximam partem scribarum munere fungebantur Zaid Ben Thabet et Mo'avia. Gratos habeat eos Deus!

De nuntiis ejus, propitius sit ei Deus et favens! —

Misit Mohammed 'Amrum Ben Omajja ad Damri ad Nagâschium. Hic accepit epistolam Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! defixit in eam oculos, descendit de solio et consedit in terra. Deinde Moslemus factus est, quum praesens ei esset Gâ'fer Ben Abi 'Tâleb; et bonus erat ejus Isla-

في خدمه صلعم * منهم أنس بن مالك وشد وأما ابنا حارثة الأسلميان
 دربيعة بن كعب الأسلمي * وكان عبد الله بن مسعود صاحب نعلبة اذا نام البسه
 أباهما واذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه * وكان عقبه بن عامر صاحب بغلته صلعم
 بقود به في الأسفار ويلاّل المؤذن وسعد مولي ابي بكر الصديق وذو بحمر ويقال بحمر
 بالباه الموحدة بن ابي التيجاني ويقال ابن أخته وبكر بن سراج الليثي ويقال بكرة
 وابو ذر الغفاري والاسلم بن شريك بن عوف الاعرجي ومهاجر مولي ام سلمة وابو السرح
 رضي الله عنهم ❦ فصل

في كتابه صلعم * ذكرهم الحافظ ابو القاسم في تاريخ دمشق انهم ثلثة
 وعشرين دروي ذلك كله باسمائهم وهم ابو بكر الصديق وقر بن الخطاب وعمر بن
 الزبير ابي بن كعب يزيد بن ثابت معاوية بن ابي سفيان محمد بن مسلمة الأرقم بن
 ابي الأرقم وابان بن سعيد بن العاص واخوه خالد بن سعيد بن ثابت بن قيس حفظة
 بن الربيع خالد بن الوليد عبد الله بن الأرقم عبد الله بن يزيد بن عبد ربه العلاء بن
 عتبة المغيرة بن شعبة السجل وتراد غيرة شرحبيل بن حسنة * قالوا وكان اكثرهم
 كتابته يزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم ❦ فصل

في رُسله * أرسل صلعم عمرو بن أمية الضمري الي التجاني فاخذ كتاب رسول
 الله صلعم ووضع علي عنقه ونزل عن سريره فجلس علي الارض ثم اسلم حين حضره جعفر

Prophetam, propitius sit ei Deus et favens! quindecim uxores, quarum cum tredecim nuptias celebrasset, sed cum undecim solummodo rem habuisset; morientem reliquisse novem.

De servis ejus, propitius sit ei Deus et favens! — Inter hos Zaid Ben Hâretha Ben Sehorahil el-Kelbi Abu Osâma et Thaubân Ben Jogdod (eum Damma litterae primae et Dal, et ج sine vocali) et Abu Kechscha, cuius nomen est Selim, qui adfuit pugnae Bedrensi, et Bâzâm, Ruvaifa', Raçir, Maimun, Abu Bekra, Hormuz, Abu Çafija Obaid, Abu Selma, Anasa (cum Fatha litterarum ى et و), Çâleh, Schokrân, Rabâh (cum Be puncto unico instructo), Aswad, Sârbui, qui appellatur Aslam et alia habet nomina, Abu Lahtha, Fodâla Jemanensis, Abu Râfe', Med'am (Mim cum Kesre et Dal sine vocali et 'Ain cum Fatha, ambo sine punctis diacriticis); Aswad, qui interfectus est in valle Kora; et Kerkerâ (ambo ك cum Kesra, aut secundum alios cum Fatha), qui erat inter famulos Prophetæ, propitius sit ei Deus et favens! et Zaid, avus Helâli Ben Jasâr Ben Zaid, et Obaida et Tehmân vel Kaisân vel Mihrân vel Dekrân vel Merwân, et Mâbur el-Ka'ti, Wâked, Abu Wâked, Heschâm, Abu Demira, Hosain, Abu 'Asib, cui nomen Ahmar (ruber), Abu Obaida, Safina, Selmân Persa, Aiman Ben Omm-Aiman, Afah, Sâbek, Sâlem, Zaid Ben Maula, Sa'id, Demira Ibn Demira, 'Abdolla Ben Aslam, Nâfe', Saïl, Wardân, Abu Athila et Abul-Hamra.

Inter ancillas erant Salma (Sin cum Patach), Omm-Râfe', Omm-Aiman Barka (Be cum Patach), quæ erat mater Osâmæ Ben Zaid, Maimuna, filia Sa'idi, Haçra, Radwa, Omaima, Maria et Schirin, ejus soror et mater 'Abbâsi. Plurimorum ex his mentio fit in libris, et invenietur expositio de iis in capitibus eorum, juvante Deo, qui exaltetur! Scias enim hos servos non uno eodemque tempore exstitisse Prophetæ, propitius sit ei Deus et favens! sed quemque eorum per aliquod tempus. Et Deus est sciens.

يرينا عن قتادة قال تزوج النبي صلعم خمس عشرة امرأة فدخل بثلاث عشرة وجع وبين
احدي عشرة وتوتني عن تسع ۞ فصل

في مواليه صلعم * منهم يزيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ابو أسامة وثوبان
بن جُحْدُ بضم الموحدة والدال واستكان الجهم وابو كبشة واسمه سليمان شهد بدرأ
وبانام رويغ^س وقصير ومهون وابو بكرة وهرمز وابو صفية عبيد وابو سلمي وآسة بفتح
الهمزة والنون وصالح وشقران ورياح بالموحدة واسود وسابوي [وابو رافع] واسمه أسلم وقيل
غير ذلك وابو لهثة وفضالة الهائي وابو رافع ومدعم بكسر الميم واسكان الدال وفتح العين
المهملتين اسود وهو الذي قُتِلَ بوادي القري وكركرة بكسر الكافين وقيل بفتحهما
كان علي ثقل النبي صلعم وزيد جد هلال بن يسار بن يزيد وعبيدة وظهمان او كيسان
او مهران او ذكران او مروان ومابور القطبي وواقد وابو واقد وهشام وابو ضميرة وحسين
وابو عسيب واسمه اجير وابو عبيدة وسفيانة وسلمان الفارسي وابنه بن أم ايمن وافصح
وسابق وسالم وزيد بن مولا وسعيد وضميرة ابن ضميرة وعبيد الله بن أسلم ورافع وسبل
وردان وابو اثيلة وابو الجراح ومن الائمة سلمى بفتح السين أم رافع وأم ايمن بركة
بفتح الباء في أم أسامة بن يزيد وسهونة بنت سعيد وحصري ورضوي وأمجة ومارية وشيرين
وفي اختها وأم عباس ۞ وكثير من هؤلاء لهم ذكر في الكتب وسباني ببيان احوالهم في
تراجمهم ان شاء الله تعالى * واعلم ان هؤلاء الموالى لم يكونوا موجودين في وقت
واحد للنبي صلعم بل كان كل بعض منهم في وقت * والله اعلم ۞ فصل

omnes ex Chadīga, excepto Ibrahim, qui ex Maria Aegyptiaca. Omnes obierunt ante Mohammedem, excepta Fā'tima, quae vixit post eum sex menses, quod vero proximum est; dicitur etiam tres menses.

Patruī erant ei, propitius sit ei Deus et favens! undecim, quorum unus el-Hāreth, natu maximus filiorum 'Abd-el-Mo'taleb, qui ab eo cognominatus est. Deinde Rotham, ez-Zobair, Hamza, el-'Abbās, Abu 'Tāleb, Abu Laheb, Abd-el-Ka'ba, Haġl (cum َ sine puncto diacritico, cum Fa-tha et َ sine vocali), Cherār et el-Gaidāk. Ex his Islamismum amplexi sunt Hamza et el-'Abbās. Hamza eorum natu minimus fuit, quippe collectaneus Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! Huic proximus aetate fuit el-'Abbās, qui praefuit puteo Zemzem post patrem suum 'Abd-el-Mo'taleb, et natu major fuit Legato Dei, propitius sit ei Deus et favens! tres annos.

Amītas habuit propitius sit ei Deus et favens! sex: Cafījam, quae Islamismo addicta fugae intererat; haec erat mater ex-Zobair Ben el-'Avānum et obiit Medinae sub chalifatu 'Omar, Ben el-Cha'ttāb, gratum habeat eum Deus! haec erat soror Hamzae ex eadem matre; et Āteka, quae Islamismo addicta fuisse dicitur, et haec fuit, quae vidit per somnum pugnam Bedrensem; et nota est ejus historia. Porro Barra, Arvai, Amīna et mater Hakimi, haec est el-Baida (alba).

De uxoribus ejus propitius sit ei Deus et favens! — Prima earum erat Chadīga. Porro Sauda, 'Ajēscha, Hafsa, Omm-Habība, Omm-Salama, Zainab filia Ġahschī, Maimuna, Ġovairia et Cafīja. Commemorabimus eas in capitibus earum juvante Deo, qui exaltetur! Novem earum, excepta Chadīga, moriens reliquit; nec vivente Chadīga eum alia rem habuit; neque in matrimonium duxit virginem praeter 'Ajēscham. Quod autem attinet ad eas, quas reliquit, dum vivebat, missas faciamus has ob magnam diversitatem inter eas. — Erant ei etiam duae pelliceae Maria et Rihāna, filia Zaidi vel Simeonis, quam manu misit. Accepimus a Kotāda, duxisse

بِكْتة ثُمَّ اِبْرَاهِيمَ بِالْمَدِينَةِ وَكُلَّهُمْ مِنْ خَدِيجَةَ اِلَّا اِبْرَاهِيمَ فَاِنَّهُ مِنْ مَارِثَةِ الْعَيْطِطِيَّةِ *
 وَكُلَّهُمْ تَوَقَّعُوا قَبْلَهُ اِلَّا نَاطِمَةَ فَاِنَّهَا عَاشَتْ بَعْدَهُ سَنَةً اَشْهَرَ عَلَي الْاَصْحَمِ
 وَقَبْلَ ثَلَاثَةِ اَشْهُرٍ ۞ فَصَل

اَقَامَهُ صَلْعَمُ اَحَدَ عَشَرَ اَحَدَهُمُ الْحَارِثُ وَهُوَ اَكْبَرُ اَوْلَادِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبِهِ كَانَ
 بِكْنِي * وَقَتْمٌ وَالزُّبَيْرُ وَحِجْرَةُ وَالْعَبَّاسُ وَابُو طَالِبٍ وَابُو لَهَبٍ وَعَبْدُ الْكَلْبِيِّ وَحَجَّلٌ بِحَاءَ
 مِهْمَلَةٍ مَقْتُوْحَةٍ ثُمَّ جَبْمٌ سَاكِنَةٌ وَخِرَارٌ وَالغُبَّادَاتُ ۞ اَسْلَمَ مِنْهُمْ حِجْرَةُ وَالْعَبَّاسُ * وَكَانَ
 حِجْرَةُ اَصْغَرَهُمْ سَنًا لِاِنَّهُ رَضِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلْعَمُ ثُمَّ الْعَبَّاسُ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي السَّنَةِ وَكَانَ بِلِي
 نَزَمَهُ بَعْدَ اَبِيهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ اَكْبَرَ سَنًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلْعَمُ ثَلَاثَ سَنِيْنَ ۞

وَقَاتَهُ صَلْعَمُ سِتُّ صَفِيَّةٌ اَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ فِي اَمِّ الزُّبَيْرِ بَيْنَ الْعَوَامِ تَوَقَّيْتُ بِالْمَدِينَةِ
 فِي خِلَافَةِ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ وَفِي اُخْتِ حِجْرَةَ لَامِيَةً وَعَايَكْتُ قَبْلَ اَنَّهَا اَسْلَمَتْ وَفِي النَّبِيِّ
 رَأَتْ رُؤْيَا غُرُوْرًا بِدِرٍّ رَقَصَتْهَا مَشْهُوْرَةٌ رِبْرَةً وَاَرْوِيَّ وَامِيَّةٌ وَاُمُّ حَكِيْمٍ وَفِي الْبَيْضِ ۞ فَصَل

فِي اَنْزَوَاجِهِ صَلْعَمُ اَوْلَاهُنَّ خَدِيجَةُ ثُمَّ سُوْدَةُ ثُمَّ عَائِشَةُ ثُمَّ حَفْصَةُ وَاُمُّ حَبِيْبَةَ وَاُمُّ
 سَلْمَةَ وَزَيْنَبُ بِنْتُ حَشَّاشٍ وَمِهْمُونَةُ وَجَوْهَرَةُ وَصَفِيَّةٌ وَسُنْدُكْرَهُنَّ فَبِي تَرَاجِيْعٍ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
 تَعَالَى ۞ فَهَوْلَاءُ اَلْتَسْعُ بَعْدَ خَدِيجَةَ تَوَقَّيْتُ عَنْهُنَّ وَلَمْ يَتْرُوْجَنَّ فِي حَبُوْبَةِ خَدِيجَةَ غَيْرَهَا وَلَا
 يَتْرُوْجَنَّ بِكْرًا غَيْرَ عَائِشَةَ وَاَمَّا اللَّاتِي تَأْرَقِيْنَ صَلْعَمُ فِي حَيَاتِهِ فَتَرْكِنَاهُنَّ لِكَثْرَةِ الْاِخْتِلَافِ
 فِيهِنَّ ۞ وَكَانَ لَهُ سُرَيْمَانُ مَارِثَةٌ وَرَبِيْحَانَةُ بِنْتُ زَيْدٍ وَقَبْلَ بِنْتِ سَمْعُوْنِ ثُمَّ اَعْتَبَقَهَا *

eos. Dimittebat quoque barbam et illinebat stibio oculos quaque nocte, ter quemque oculum dum dormiebat. Induere solebat tunicam et vestes albas et striatas; haec est species vestium versicolorum, rubro colore distinctarum. Et operiebat tunica Legatum Dei, propitius sit ei Deus et favens! usque ad carpum. Inducebat autem modo vestem virgatam rubram et subligaculum et pallium, modo duas vestes subalbicantes, modo tunicam angustis manicis, modo tunicam Persicam, modo cidarem nigram, cujus laciniam demittebat inter scapulas, modo vestem breviorē nigram ex pilis i. c. vestem et indumentum sigilli, et ocreas et calceos.

Erant ei tres filii: el-Kasem, a quo cognominatus est. Natus est ante prophetiam et mortuus secundo aetatis anno. 'Abdolla, cui cognomina 'Tajjeb (boni) et 'Tàher (sancti), quippe qui natus est post prophetiam. Dicitur quoque 'Tajjeb et 'Tàher alius esse quam 'Abdolla; sed verum prius. Tertius est Ibrahim, natus Medinae anno octavo, ibique mortuus anno decimo, septimo decimo aetatis mense, vel duodevigesimo. Et erant ei, propitius sit ei Deus et favens! quatuor filiae: Zainab, uxor Abul-'Āç Ben er-Rebi' Beu 'Abd-el-'Ozzi Ben 'Abd-esch-Schems, filii materterae ejus, cujus mater erat Hāla, filia Chovailed. Fā'tima, uxor 'Ali Ben Abi 'Tàleb, gratum habeat eum Deus! et Rakija et Omm - Kelthum, uxor 'Othmāu Ben 'Affān, qui antea jam Rakijam uxorem duxerat; et mortuae sunt ambae apud eum. Ille inde cognomen habuit possessoris duorum luminum. Obiit Rakija die Bedrensis pugnae mense Ramadān anno secundo Hegrae et obiit Omm-Kelthum mense Seha'abān anno nono Hegrae. — Filias quatuor habuit sine controversia, et filios tres verisimiliter. Primus natus est el-Kasem, deinde Zainab, tunc Rakija, Omm-Kelthum, Fā'tima. Dicitur etiam Fā'tima, sit ei pax! natu major fuisse quam Omm-Kelthum; quod commemorat 'Ali Ben Ahmed Ben Sa'id Ben Mahram Abn Mohammed memoria tenens Koranum. — Deinde in Islamismo 'Abdolla Meceae et Ibrahim Medinae;

فَرَّقَهُ وَكَانَ هَرَجَلُهُ * وَبَسْرَحُ لِحْيَتِهِ وَبِكَتَلُ بِالْأَيْدِي كُلِّ لِبَلَّةٍ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةٌ أَطْرَافٍ
عَبْدُ النَّوْمِ * وَكَانَ أَحَبَّ الثُّنَابِ إِلَيْهِ الْقَمِيصُ وَالْبِيضُ وَالْحَبْرَةُ وَفِي ضَرْبٍ مِنَ الْبَرِيدِ فِيهِ
حَرَّةٌ وَكَانَ كَمِّ قَمِيصٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّسْعِ وَبِئْسَ فِي وَقْتِ حُلَّةٍ جَسْرًا وَانْزَارًا وَرِدَاءً
وَفِي وَقْتِ ثَوْبَيْنِ أَغْفَرَيْنِ وَفِي وَقْتِ جُبَّةٍ صَبِيغَةَ الْكَلْبِ وَفِي وَقْتِ قَبَاءٍ وَفِي وَقْتِ هَامَةِ سَوْدَاءَ
وَأَرْجَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَفِي وَقْتِ مِرْطَا أَسْوَدَ مِنْ شَعْرِ أَبِي كَسَاةٍ وَبِئْسَ الْحَاتِمُ وَالْحَنْفُ
وَالنَّعْلِيُّ فَصَل

لَهُ بَنِينَ ثَلَاثَةٌ الْقَسَمُ وَبِهِ كَانَ يَكْنِي وَوُلِدَ قَبْلَ النَّبِيِّ وَتَوَفَّى وَهُوَ ابْنُ سَنَتَيْنِ
وَعَبْدُ اللَّهِ وَسَمِيَ الطَّيِّبَ وَالطَّاهِرَ لِأَنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ النَّبِيِّ وَقَبْلَ الطَّيِّبِ وَالطَّاهِرِ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ *
وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ * وَالثَّلَاثُ إِبْرَاهِيمُ وَوُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَمَانَ وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ عَشْرِ رَهْوَ ابْنِ
سَبْعَةِ عَشْرِ شَهْرًا أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشْرًا * وَكَانَ لَهُ صَلَاحٌ أَرْبَعُ بَنَاتٍ تَرْهَبُ تَرْوَجُهَا أَبُو الْعَاصِ بْنِ
الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيِّ بْنِ عَبْدِ الشَّمْسِ وَهُوَ ابْنُ خَالَتِهَا وَأُمُّهَا هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ * وَطَاغَمَةُ
تَرْوَجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ * وَرَقِيَّةُ رَأْمٌ كَلْثُومٌ تَرْوَجُهَا عَمْرُو بْنُ عَفَّانَ
تَرْوَجُ رَقِيَّةَ ثُمَّ أُمُّ كَلْثُومٍ * وَتَوَفَّيْنَا عَنْهُ وَلِهَذَا سَمِيَ ذَا النُّورَيْنِ * تَوَفَّيْتُ رَقِيَّةَ يَوْمَ يَدْرٍ
فِي رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَتَوَفَّيْتُ أُمَّ كَلْثُومٍ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ *
فَالْبَنَاتُ أَرْبَعٌ بِلَا خِلَافٍ وَالْبَنُونَ ثَلَاثَةٌ عَلِيُّ الصَّحِيحُ * وَأَزَلَّ مِنْ رَأْمٍ لَهُ الْقَسَمُ ثُمَّ تَرْهَبُ
ثُمَّ رَقِيَّةُ ثُمَّ أُمُّ كَلْثُومٍ ثُمَّ طَاغَمَةُ * وَجَاءَ أَنَّ طَاغَمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أُمَّ كَلْثُومٍ
ذَكَرَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَافِظِ * ثُمَّ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ

neque arbor, neque lapis reliquus erat, qui non prostratus jaeuisset; at prostrant se non nisi ad prophetam; et invenimus hoc in libro nostro. Petiit igitur ab Abu 'Tâleb, ut reduceret eum, metu a Judaeis; et ille reduxit eum.

Rursus deinde adibat Mohammed Syriam cum Maisara, servo Chadigae, gratam habeat eum Deus! in mercatura ejus, priusquam illam uxorem duxit, donec pervenit ad forum Boçrae. Quum autem attingerat vigesimum quintum annum, uxorem duxit Chadigam. — Et quum Medina relicta fugit exul, exiit eum eo Abu Bekr veridicus, gratum habeat eum Deus! et libertus Abi Bekr, 'Amer Ben Fobaira (cum Damma literae Fe) eorumque dux itineris 'Abdolla Ben el-Oraika't Laitiita, qui fuit impius et Islamismi ignarus.

De habitu ejus, propitius sit a Deus et favens! —

Erat Mohammed neque procerus admodum, neque brevis, neque albo, nec candido, nec fusco colore; nec valde crispo, nec torto capillo; et morienti ei nondum viginti pili albi in capite erant. Et pulchro erat corpore et latis humeris; capillus dependebat ad humeros, interdum ad auriculam infimam, interdum ad mediam aurem; densa erat barba, crassis manibus i. e. crassis digitis; magno capite et ossibus, plena facie, nigris oculis, longis palpebris, rubris oculi angulis, longis crinibus, tenuiori ductu a pectore protensis ad umbilicum, instar rami. Incedebat erecto capite porrectoque collo, velut si descenderet de solo declivi i. c. incedebat gressu firmo sicut is, qui descendit de declivi. Fulgebat ejus facies sicut luna noctis decimae quartae, perinde ac si ejus facies esset plena luna. — Clara erat voce, mollibus genis, magno ore, aequali ventre et pectore, pilosis humeris et brachiis et superioribus pectoris partibus, longis ulnis, ampla vola, oculis rubore conspicuis i. e. longa eorum rima; calcibus tenuibus i. e. paucae carnis. Inter scapulas erat sigillum prophetae, instar modi veli et ovi palumbis. Ingredienti ei submittebat se terra et declinabant se homines in ejus cursu illo non curante; et capillum promisit, deinde dividebat et pectinabat

انكم حين اقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر الا خرّ ساجداً ولا يسجد الا
 لبي نانا تجده في كتابنا * وسأل ابا طالب ان يردّه خوفاً من اليهود فرده ثم خرج
 صلعم ثانياً الي الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل ان
 يترجها حتى بلغ سوق بصرى * فلما بلغ خسا وعشرين سنة تزوج خديجة ولما خرج
 الي المدينة مهاجراً خرج معه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ومولي ابي بكر عامر بن
 فهيرة يضم الفاء ودلهم عبد الله بن الأبرقظ الميثبي وعو كافر ولا يعلم له اسلام فصل

في صفته صلعم * كان صلعم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا الابهض
 لامهت ولا آدم ولا الجعد القلط ولا السبط وتوتى وليس برأسه عشرون شعرة وبهاء *
 وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين له شعر الي منكبيه وفي وقت الي شحمة اذنيه
 وفي وقت الي نصف اذنه كث اللحية شثن الكفري اي غليظ الاصابع ضمم الرأس
 والكراديس في وجهه تدوير ادعج العينين طويل اهدابهما احمر المائي ذا مسرنة وفي الشعر
 الرقيب من الصدر الي السرة كالتصبيب * اذا مشي تتلع كأنما يخط في صيب اي يمشي
 بقوة والتصبيب الحدور * يتلألاً وجهه كالتمر لبللة البدر كأن وجهه كالتمر * حسن الصوت
 سهل الحديث ضليح الذم سوا البطن والصدر أشهر المنكبين والأرابعن واعالي الصدر طويل
 الرئدين رحب الراحة اشكل العينين اي طويل شقهما منهوس العقبين اي قليل لحم
 العقب * بين كتفيه خاتم النبوة كره الحجلة وكبضة الحمامة * وكان اذا مشي
 كأنما تعاوي له الارض ويبرزن في لحاقه وعو غير مكثر * وكان يسدل شعر رأسه ثم

annos vel quatuor natus erat. Mortua est Abvâ, loco inter Meccam et Medinam. Et missus est Mohammed Propheta ad homines omnes, quum quadraginta annos natus erat; alii addunt unum diem. Et mansit Meccae, postquam Propheta se extulcrat, tredecim annos; dicitur quoque decem, vel quindecim. Deinde fugit Medinam, ibique mansit decem annos, extra omnem controversiam. Adiit Medinam die Lunae, duodecimo die mensis Rebi' primi. Refert el-Hâkim: Incepit morbus Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! in aedibus Maimunae, die Mercurii duobus noctibus restantibus de mense Cafar.

Lae praebuit ei, propitius sit ei Deus et favens! Thovaiba (cum Damma literae The tribus punctis instructae), ancilla Abi Laheb, per aliquot dies. Deinde lae ei praebuit Holaima, filia Abi Dovaib 'Abd-alla Ben el-Hareth Sa'dita. Traditur eam dixisse: Adolevit uno die, quantum puer adolescere solet uno mense. Et adolevit Mohammed orphanus atque educavit eum avus 'Abd-el-Mo'taleb, deinde patruus Abu 'Taleb. Et purum redidit eum Deus, qui honore et laude celebretur! a sordido status ignorantiae; neque enim coluit idolum in vita unquam, neque adfuit ulli consessui impietatis hominum. Invitabunt quidem eum ad eos, sed arcebat eum Deus et immuncm servabat ab iis. — In historia 'Ali gratum habeat eum Deus! narratur Prophetam, propitius sit ei Deus et favens! dixisse: Neque colui idolum unquam, nec bibi vinum unquam, nec desii confiteri id quod illi tractarent, impium esse. Et solummodo factum est gratia Dei, qui exaltetur! erga eum quod liberavit eum a sordido ignorantiae et ab omni vitio, et donavit eum omni indole praestanti, ita ut celeberrimus factus sit inter populum suum sub nomine Fidi, propterea quod coram perspexerunt ejus fidem et veritatem et sanctitatem.

Jam quum pervenerat ad duodecimum annum, exiit cum patruo suo Abu 'Taleb in Syriam, usque dum pervenerunt Bocran. Hic vidit cum Bohairâ, monachus, qui cognovit eum forma, et adveniens prehensa ejus mane dixit: Hic est Dominus mundorum, hic est Legatus, Princeps mundorum, hunc misit Deus testimonium mundorum. — Interrogare homines: Unde hoc scis? Respondit: Profecto vos quum accessistis a jugo montis,

أم رسول الله صلعم ولد ست سنين وقيل اربع * ماتت بالأنواء مكان بهي مكة
 والمدينة * بعث صلعم رسولاً الي الناس كافة وهو ابن اربعين سنة وقيل اربعين ويوم *
 واتام مكة بعد النبوة ثلث عشرة سنة وقيل عشراً وقيل خمس عشرة * ثم هاجر الي
 المدينة واتام بها عشر سنين بلا خلاي * وقدم المدينة يوم الاثنين لثني عشرة من شهر
 ربيع الأول * قال الحاكم وبدأ الوجد رسول الله صلعم في بيت مهونة يوم الاربعاء
 للبتين بقينا من شهر صفر * فصل

ارُضِعَتْ صلعم ثُوْبِيَّةٌ بضم المثلثة مولاة ابي لهب اُماماً * ثم ارضعته حليمة بنت
 ابي ذؤيب عبد الله بن الحرث السعدية * وروي عنها انها قالت كان يشب في اليوم
 شباب الصبي في شهر * ونشأ صلعم يتماً فكفله جده عبد المطلب ثم عمه ابو طالب *
 وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية فلم يُعظم صنماً لهم في عمره قط ولم يحضر مشهداً
 من مشاهد كفرهم وكانوا يطلبونه لذلك فهتتبع وبصم الله من ذلك * وفي الحديث
 عن علي رضيه ان النبي صلعم قال ما عبدت صنماً قط وما شربت خراً قط وما نزلت اعز
 ان الذي هم عليه كفر * وهذا من لطف الله تعالي به ان برأه من دنس الجاهلية ومن
 كل عيب ومآخذ كل خليف جهل حتى كان اعز في قومه بالامير لما شاهدوا من اسانته
 وصدقه وطهارته * فلما بلغ اثنتي عشرة سنة خرج مع عمه ابي طالب الي الشام حتى بلغ
 بصرى * فرأه بحراً الراهب فعرّفه بصفتيه فحجاء واخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا
 رسول رب العالمين هذا بعثه الله حجة للعالمين * قالوا فن ان علمت ذلكذا * قال

adnumeraret duos annos, unum quo natus, alterum quo mortuus esset, et qui traderet sexaginta tres, hos non adnumeraret; et verum est sexaginta tres. — Eodem modo in aetate Abu Bekr et 'Omar et 'Ali et 'Äjeschac, gratos habeat eos Deus! verum est sexaginta tres annos. — Dixit el-Häkim Abu Ahmed, qui est Doctor el-Häkim Abu 'Abd-alla: Natus est Propheta, propitius sit ei Deus et favens! die Lunae et uxorem duxit die Lunae et fugit a Mecca die Lunae et intravit Medinam die Lunae et obiit die Lunae. Dicitur Mohammed natura vehemens et laetus fuisse. Indutus erat tribus vestibus excepta tunica et cidare. Constat hoc ex libris Veritatum. Dixit el-Häkim Abu Ahmed: Postquam involutus erat Propheta, propitius sit ei Deus et favens! vestibus feralibus, positus est in lectica sua ad latus sepulcri. Deinde exierunt homines catervatim, ut preces dicerent pro eo agmatim, nemine iis praeunte. Et primus preces pro eo dixit el-'Abbäs, deinde Häschemitae, tunc Socii fugae, tunc Adjutores, tunc ceteri homines. Postquam finiverant preces viri, accesserunt pueri, deinde mulieres. Deinceps sepultus est Propheta, et intraverunt in sepulcrum el-'Abbäs, 'Ali, el-Fadl et Kotham, filii el-'Abbäs, et Schokrän; dicitur quoque Osäma Ben Zaid et Aus Ben Hawali fuisse cum iis. — Et conditus est in sepulcro, et extracti sunt supra eum in sepulcro lapides; et septem fuisse lapides dicitur. Deinde superfuderunt terram et constituerunt tumulum ejus, propitius sit ei Deus et favens! admodum expansum et consperserunt eum aqua. Dicunt etiam factum esse piaculum in sepulcro ejus; sed hoc verum non est.

Dixit el-Häkim Abu Ahmed: Dicitur mortuus esse 'Abd-alla, pater Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! quum ipse Legatus Dei viginti octo menses natus fuisset, aut secundum alios, novem menses, aut septem, aut duos; dicitur quoque mortuus esse, quum ille adhuc foetus fuisset. Obiit autem Medinac. — Dixit el-Wäkedi ejusque scriba Mohammed Ben Sa'ad, non constare eum mortuum esse, quum ille adhuc foetus fuisset.

Et obiit ejus avus 'Abd-el-Mottaleb, quum ipse octo vel sex annos natus erat; ei hic testamento commendaverat cum Abu Täleb. — Et mortua est mater Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! quum ipse sex

المولد والوفاة ومن روي ثلثا وستين لم يعدّهما * والصحيح ثلاث وستون * وكذا الصحيح في سنّ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثلاث وستون سنة * قال الحاكم أبو احمد وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله يقال ولد النبي صلعم يوم الاثنين وبني يوم الاثنين وهاجر من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين * وروي أنه صلعم ولد محتوناً مسروياً * وكفى صلعم في ثلثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة * ثبت ذلك في الصحيحين * قال الحاكم أبو احمد ولما أدرج النبي صلعم في اكفانه وضع علي سريره تلي شغبر القبر * ثم دخل الناس ارسالاً يصلون عليه فوجاً فوجاً لا يؤمهم أحد * ناوليهم صلوة عليه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الانصار ثم سائر الناس * فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء * ثم دفن صلعم ونزل في حفرته العباس وعبيّ والفضل وقثم ابنا العباس وشقران * قال ويقال كان أسامة بن زيد واوس بن حولى معهم * ودفن في اللحد وبني عليه صلعم في لحدّه اللين يقال أنها سبع لبنات * ثم اهلوا القرب وجعل قبره صلعم مسطحاً ورش عليه الماء رشاً * قال ويقال نزل المغيرة في قبره ولا يصح *

قال الحاكم أبو احمد يقال مات عبد الله والد رسول الله صلعم ولرسول الله صلعم ثمانية وعشرون شهراً وقيل تسعة اشهر وقيل سبعة اشهر وقيل شهران وقيل مات وهو حمل * وتوفي بالمدينة * قال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد لا يثبت انه توفي وهو حمل * ومات جدّه عبد المطلب وله ثمان سنين وقيل ست سنين * وأوصي به الي أبي طالب * ومات

Nomen meum in Korano est Mohammed et in evangelio Ahmed et in lege Mo-
saica Ahid (avertens), quia averti gentem meam ab igne Gebennae. — Que-
dam horum commemoratorum adjectiva sunt, sed absolute iis describere no-
mina propria licitum est scriptoribus. Dixit Imâmus memoria tenens Koranum,
Kadi Abu Bekr Ben el-'Arabi el-Mâleki in libro prompto in explicatione
Termedii: Dicunt nonnulli Cufitarum, Deo, qui honore et laude celebretur!
esse mille nominum, et Prophetæ, propitius sit ei Deus et favens! mille no-
minum. Dixit Ibn el-'Arabi: Quod attinet ad nomina Dei, qui honore et
laude celebretur! hic numerus vilis est, et quod ad nomina Prophetæ, pro-
pitius sit ei Deus et favens! non numeravi ea, nisi qua ratione pertinent ma-
nifeste ad titulum quendam sex nominum primariorum, et collegi eorum sex-
aginta quatuor. Deinde enumerat ea distincte explicata; atque omnia collegit
et largiter dedit; et addit deinde: Et præterea cū sunt nomina.

Nomen matris Prophetæ, propitius sit ei Deus et favens! est Amina,
filia Wahb Ben 'Abd-Menâf Ben Zohra Ben Kclâb Ben Morra Ben Ka'ab
Ben Lovai Ben Galeb.

Natus est Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! anno ele-
phanti aut, ut alii dicunt, triginta annos postea. Dixit el-Hâkem Abu Ah-
med: dicitur quoque quadraginta annos postea, aut decem annos postea. —
Tradidit hoc memoria tenens Koranum Abul-Kasem Ben 'Asâker in chronico
Damasci, et vera et divulgata est sententia, anno elephantum eum natum esse.
Narrat Ibrahim Ben Monder el-Hizâmi Doctor Bocharensis, et Chalifa Ben
Hannât aliique, consentire in hac re viros doctos. Conveniunt quoque enim
natam esse die secundo (hebd̄omadis i. e. die Lunæ) mensis Rebi' primi, dis-
sentiant autem num fuerit secundo, an octavo, an decimo, an duodecimo; nam
hae quatuor sententiæ divulgatae sunt. Obiit autem Mohammed mane die Lu-
nae effluxit duodecim noctibus mensis Rebi' primi, anno undecimo post He-
gram, unde incipit aera, sicut antea dictum est. Et sepultus est die Martis
post solis occasum, aut nocte quarta hebd̄omadis. — Mortuus est Mohammed
sexaginta tres annos natus, aut sexaginta quinque, aut sexaginta annos; sed
prius veris. Attamen quaeque harum trium sententiarum verum attingit; nam
traditiones ita conjungendas esse dicunt viri docti, ut, qui sexaginta annos
traderet, non curaret numerum fractum, et qui traderet sexaginta quinque,

مُحَمَّدٌ وَفِي الْأَنْجِيلِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مَرْيَمَ وَآدَمُ ابْنُ آدَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 وَخَلِّصْهُم مِّنَ النَّارِ ۖ قُلْتُ وَبَعْضُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صِفَاتٌ يُطَلَّقُهَا الْأَسْمَاءُ عَلَيْهَا حِجَابٌ ۖ قَالَ الْإِمَامُ
 الْحَافِظُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْغَرَبِيِّ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ الْأَحْوَدِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ
 بَعْضُ الصَّرْفِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَدَّ الْكُلُّ اسْمٌ وَاللَّيْبِيُّ صَلَعَمُ الْكُلُّ اسْمٌ * قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ نَامًا أَسْمَاءُ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَدَّ فَهَذَا الْعَدَدُ حَقِيرٌ فِيهَا وَأَمَّا اسْمُهُ الَّذِي صَلَعَمُ فَلَمْ أُحْصِهَا إِلَّا مِنْ جِهَةِ
 الْوُرُودِ الظَّاهِرِ بِصِبْغَةِ الْأَسْمَاءِ السَّنَةِ فَوَعِبَتْ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ أَسْمَاءً * ثُمَّ ذَكَرَهَا مُفَصَّلَةً
 مَشْرُوحَةً فَاسْتَوْعَبَ وَأَجَادَ * ثُمَّ قَالَ وَلِدَ وَرَأَى هَذِهِ الْأَسْمَاءَ ۖ وَاسْمُ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَعَمُ آمِنَةُ
 بِنْتُ وَهَبٍ بِنْتُ عَبْدِ مَنَايَ بِنْتُ زَهْرَةَ بِنْتُ كَلَابِ بْنِ مَرَّةَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ بِنْتُ غَالِبِ ۖ
 وَيَلِدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَعَمُ عَامَ الْفَيْلِ وَقَبْلَ بَعْدِهِ بِثَلَاثِينَ سَنَةً * قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ وَقَبْلَ
 بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً وَقَبْلَ بَعْدَهُ بِعَشْرٍ سَنِينَ ۖ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرٍ فِي
 تَارِيخِ دِمَشْقَ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ عَامَ الْفَيْلِ * وَتَقَدَّمَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْذَرٍ الْحِزَامِيُّ شَيْخُ
 الْبُخَارِيِّ وَخَلِيفَةُ بَيْنَ حَنَاطٍ وَآخَرِينَ الْأَجَاعَ عَلَيْهِ * وَاتَّفَقُوا عَلَيَّ أَنَّهُ وَلِدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنْ
 شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ فِي الثَّلَاثِيَةِ أَمْ الثَّمَانِيَةِ أَمْ الْعَاشِرَةِ أَمْ الثَّانِيَةِ عَشْرِ فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ
 أَقْوَالٌ مَشْهُورَةٌ ۖ وَتَوَاتَرَتْ صَلَعَمُ لِحَقِّهَا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ لثَنِي عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ
 سَنَةَ أَحَدِي عَشْرَةَ مِنَ الْهَجْرَةِ وَمِنْهَا ابْتِدَاءُ التَّارِيخِ كَمَا سَبَقَ * وَفِي يَوْمِ الثَّلَاثَا حِينَ
 نَزَلَتْ الشَّمْسُ وَقَبْلَ لَيْلَةِ الْأَرْبَعَةِ * وَتَوَاتَرَتْ صَلَعَمُ وَلِدَ ثَلَاثَ وَسِتُّونَ سَنَةً وَقَبْلَ خَمْسَ وَسِتُّونَ
 سَنَةً وَقَبْلَ سِتُّونَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ * وَقَدْ جَاءَتْ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِي الصَّحِيحِ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْجَمْعُ
 بَيْنَ الرَّبَابَاتِ أَنْ مَنْ رَوَى سِتِّينَ لَمْ يَحْتَسِبْ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ وَمَنْ رَوَى خَمْسًا وَسِتِّينَ عَدَّ سِتِّينَ

Sed jam tempus est aggrediendi operis propositi, petendo auxilium a Deo, excelso, munifico; incipiendo a collaudatione Mohammedis, deinde ejus nomen est Mohammed, ob honorem nominis ejus. Deinde redibo ad seriem literarum, oratione constitutam. At ille, propitius sit ei Deus et favens! est

M O H A M M E D

Ben 'Abdolla Ben 'Abd-el-Mo'taleb Ben Hâschem Ben 'Abd-Menâf Ben Koçai Ben Kelâb Ben Morra Ben Ka'ab Ben Lovai Ben Gâleb Ben Fehr Ben Mâlek Ben en-Nadr Ben Kenâna Ben Chozaima Ben Modreka Ben Eljâs Ben Modar Ben Nezâr Ben Ma'add Ben 'Adnân. Hue usque concinunt viri docti genealogiae nominibus; sed quae inde sequuntur usque ad Adamum, discrepant iis quam maxime; dicunt adeo, nihil iis inesse veri, cui fidem habere possis. — Koçai cum Damma literae Kaf et Lovai eum Hamza, quod etiam omittitur, et Eljâs cum Hamza Veçl aut secundum alios cum Hamza separationis.

Cognomen Prophetæ, propitius sit ei Deus et favens! est Abul-Rasem, et appellat eum Gabriel, propitius sit ei Deus et favens! Abu Ibrahim; et legato Dei, propitius sit ei Deus et favens! multa sunt nomina. Segregavit Imâmus memoria tenens Koranum, Abul-Rasem 'Ali Ben el-Hosain Ben Hebat-alla Ben 'Abd-alla Schâfe'ita Damascenus, qui vulgo appellatur Ibn 'Asâker, misereatur ejus Deus! caput in chronico Damasci, in quo multa nomina memoravit, quorum nonnulla occurrunt in duobus libris Veritatum et reliqua alias. Inter hæc Mohammed, Ahmed, Congregator, Successor, Praepositus, Obliterator, Sigillum Prophetarum, Propheta misericordiae, Propheta vaticinii et in relationibus Propheta vaticiniorum, Propheta emendationis morum, Aperiens, 'Tab, Jas et Servus Dei. Dixit Imâmus memoria tenens Koranum Abu Bekr Ahmed Ben el-Hosain Ben 'Ali Baihakita (misereatur ejus Deus!): Adjiciunt nonnulli viri docti hæc: Appellavit eum Deus, qui honore et laude celebretur! in Korano Legatum, Prophetam, Idiotam, Testem, lætæ rei Nuntium, Apostolum, Advocantem ad Deum praeconio suo, et Lampadem lucentem, et Clementem, Misericordem et Recordantem; et constituit eum tamquam misericordiam et beneficium et ducem; propitius sit ei Deus et favens! Idem auctore Ibn Abbas, gratos habeat eos Deus! refert: Dixit Legatus Dei (propitius sit ei Deus et favens!):

وهذا حين اشرى في مقصود الكتاب مستعينا بالله اكرههم الوهاب مُبْتَدِئًا
 بثنا محمد صلعم ثم من اسمه محمد لشرى اسمه ثم اعود الي ترتيب المعروف المشروطة
 في الخطبة وهو صلعم

محمد

بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن
 مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن
 مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان * الي هنا اجماع الامم
 واما ما بعده الي آدم فيختلف فيه اشد اختلاف * قال العلماء ولا يصح فيه شيء
 يُعتد به وقصي بضم القاف ولؤي بالهمز وتركه والياس بهمزة وصل وقيل بهمزة قطع
 وكنية النبي صلعم ابو القاسم وكناه جبريل صلعم ابا ابراهيم * ورسول الله صلعم اسماء
 كثيرة افرد فيها الامام الحافظ ابو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عبد الله
 الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله بابا في تاريخ دمشق ذكر فيه اسماء
 كثيرة جاء بعضها في الصحاح وياتيها في غيرها منها محمد واحد والناشر والعاقب
 والمقبي والملي وخاتم الانبياء ونبي الرحمة ونبي الملازمة ونبي الرواية ونبي الملاحم ونبي التوبة
 والفتاح وطه ويس وعبد الله قال الامام الحافظ ابو بكر احمد بن الحسين بن علي
 البهبهني رحمه الله نراد بعض العلماء فقال سماه الله عز وجل في القرآن رسولاً نبياً امياً شاهداً
 مبشراً نذيراً داعياً الي الله ياذنه وسراجاً منيراً وروّنا رحماً ومذكراً وجعله رحمةً ونعمةً
 وهاهنا صلعم * وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلعم اسمي في القرآن

'Ali. — Quarto anno nupsit Omm-Salma; et deminuta est precationis formula; et divinitus missum est التَّهَمُّمُ; et accidit pugna ad Chandak (fos- sam), quam alii anno quinto accidisse dicunt, sed rectius anno quarto. Nam in duobus Libris Veritatum Ibn 'Omar, gratum habeat cum Deus! tradi- dit: Obviam veni Prophetae, propitius sit ei Deus et favens! die Ohod, qua- tuordecim annos natus, nec me praeteriit; et obviam veni ei die Chandak quindecim annos natus, et me praeteriit. Pugna Ohodensis autem tertio jam anno commissa erat. Nominatur Chandak et Ahzâb, et erat obsidio turma- rum Medinensium per quindecim dies. Deinde fugavit eos Deus, qui honore et laude celebretur! et misit contra eos ventum et copias. Eodem anno pugna ad Dât-cr-Rekâ' facta esse dicitur, sed rectius ad annum quintum transfertur. Primae quoque institutae sunt preces pro prospero belli eventu; et interfecti sunt lectores ad Bir-Ma'una, gratos habeat eos Deus! — Quinto anno ac- ciderunt proelia ad Dumat el-Gandal et cum Korai'titis et divinitus missum est الحجاب. — Sexto anno erat pugna ad Hodaibajam et Sacramentum benepla- citi et pugna contra Moc'talakitas et obscuratus fuit sol et divinitus missum est الظهار. — Septimum in annum incidit expugnatio Chaibar et Pax, scilicet pax constituta cum Meccensibus; et absolutio, quam vocant alii visitationem absolutionis alii enunciationis. Eodem anno migrarunt Châled Ben el-Walid et Othman Ben 'Talha adolescens ad Ka'abam, invenerunt ibi 'Amrum Ben el-Âç et post matutinum potum Islamismum professi sunt omnes. Uxores duxit Propheta Omm-Haliba et Maimunam et Cafijam et venit ad eum Maria et mula sua Duldul; et advenit Ġa'fer ejusque socii ex Habessinia; et Islamismum pro- fessus est Abu Horaira. — Octavo anno acciderunt pugnae ad Mutah et Dat es-Salâsel; et expugnatio Meccae mense Ramadân. Natus est Ibrahim et mortua Zainab, filia Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! Et pugnatum est ad Honain et 'Tâjef; et in caritate annonae fuit annus, unde dicitur: Pre- tium constituc nobis. Sed responsum iis dedit: Qui constituit pretium, est Deus. — Nono anno accidit expeditio Tabuk; et iter sacrum fecit Abu Bekr, gratum habeat cum Deus! cum hominibus; et mortua est Omm Kethum et en-Nagâschi, gratos habeat ambos Deus! et subsequuta sunt legationes. — Decimo anno Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! sacrum iter valed- ictionis fecit; et obiit Ibrahim, filius Prophetae; et Islamismum professus est Ġorair; et divinitus missum est: Quando veniet auxilium Dei et victoria.

بن علي ۞ الرابعة فيها تنزج أم سلمة وتُصِرَّتِ الصَّلوة ونزل التَّهَمَ وفيها غزوة الخندق وقيل
 الخندق في سنة خمس والصبح أنه سنة أربع * ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما
 قال عرضت علي النبي صلعم يوم أُحُد وإنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق
 وإنا ابن خمس عشرة سنة فأجرتني وبعد أن أُحُدًا في الثالثة ويقال لها الخندق والاحزاب وكان
 حصار الاحزاب المدينة خمسة عشر يوماً ثم هزمهم الله عز وجل وأرسل عليهم رجلاً وجنوداً *
 وقيل إن غزات ذات الرِّقاع فيها والصبح أنها في سنة خمس * وهو أول صلوة الخوف * وفيها
 قتل القرأ ببئر معونة رضي الله عنهم ۞ والخامسة فيها غزاة دومة الجندل وقربظة ونزل
 الحجاب ۞ والسادسة فيها غزاة الحُدَيْبِيَّةَ وبيعة الرِّضوان وغزوة بني المصطلق وكسفت
 الشمس ونزل الظَّهَارِ ۞ والسابعة فيها غزوة خيبر والتُّهْدُنَّةَ وهو الصلح مع أهل مَكَّةَ والقضاء
 ويقال لها أيضاً غزوة القضاء وغزوة القضية أيضاً * وفيها هاجر خالد بن الوليد وعثمان
 بن طلحة شادن العبيلا فلقوا عمرو بن العاصي واصطبحوا واسلموا ثلاثتهم * وتزوج أم
 حبيبة ومهونة وصغبة ورجاء ماهرةً وبغلتة دُلْدُلُ * وقدم جعفر والصحابة من الحبشة وأسلم
 أبو هريرة ۞ الثامنة فيها غزوة مُوتَمَ وذات السلاسل وفتح مَكَّةَ في رمضان وولد إبراهيم
 وتوفيت زينب بنت رسول الله صلعم * وفيها غزوة حُنَيْنِ والطَّاهِفِ * وفيها غزاة السَّعْرِ
 فقالوا سَعْرٌ لنا نأجابههم بقوله السَّعْرُ هو الله ۞ التاسعة فيها غزوة تبوك وحج أبو بكر
 رضي الله عنه بالناس وتوفيت أم كلثوم والتجاني رضي الله عنهما وتتابعت الوفود ۞
 العاشرة فيها حج رسول الله صلعم حجة الوداع وتوفي إبراهيم ابن النبي صلعم وأسلم
 جرير ونزل إذا جاء نصر الله والفتح ۞

Imamo Meccae et Medinae, hic a patre suo, Abu Mohammed, hic ab Abu Bekr 'Abdolla Ben Ahmed Ben 'Abdolla Ben Ahmed, fabro ferrario ex urbe Merw, cui cognomen eç-Cagir (parvi), qui erat Imamus regulae in Chorasani; hic ab Abu Zaid Mohammed Ben Ahmed Ben 'Abdolla Ben Mohammed el-Meruzi, hic ab Abu Ishak el-Meruzi, hic ab Ibn Soraig, sicut praecessit. — Et interfuit doctor noster Imamus Abul-Hasan Sellâr scholae multorum virorum ex quibus Imamus Abu Bekr el-Mahâni; et institutus est el-Mahâni ab Ibn el-Barezi regula praecedente. Haec est adumbratio catenae; et certum est; unumquemque eorum accepisse a pluribus, imo a multis; sed volui abbreviare et proferre unum ex doctoribus uniuscujusque, et commemoravi ex iis celeberrimum et illustrissimum vujusque doctorem. Et fusius exponam de conditionibus et descriptionibus eorum in hoc libro, juvante Deo, qui exaltetur! exceptis doctoribus nostris serioribus. Nam pluri eorum non commemorabuntur in hoc, quoniam eos jam commemoravi in Libro Classium. Et in Deo auxilium!

Incipit chronologia in Islamismo a fuga Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! ex Mecca Medinam; in qua re omnes consentiunt; et primus, qui descripsit tempus annis post fugam, est 'Omar Ben el-Cha'ttâb, gratum habeat eum Deus! anno septimo decimo post fugam. Haec autem sunt adumbrationes in expositione summae memorabilium rerum gestarum quoque anno, ab anno fugae usque ad mortem Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens! secundum ordinem annorum, quorum sunt decem: Primo anno condidit Propheta, propitius sit ei Deus et favens! templum suum et mansiones, et fraternitatem instituit inter Socios fugae et Adjuutores; item Islamismum professus est 'Abdolla Ben Selâm, et primae institutae sunt preces publicae. — Secundo anno versus est tractus, ad quem dirigunt vultum inter precandam, ad Ka'abam, sexto vel septimo decimo mense post fugam. Mense Scha'abân (octavo) ejusdem anni sancitum est jejunium mensis Ramadân (noni) novilunio; sancita est etiam elemosyna jejunii soluti. Pugna Bedrensis incidit in mensem Ramadân. Mense Schawwâl (decimo) duxit Propheta 'Ajescham; et 'Ali matrimonio sibi junxit Fâtimam. — Tertio anno pugnae et expeditiones erant, ut Ohodensis, die septimo hebdomadae et septimo mensis Schawwâl, et Bedrensis minor, novilunio mensis Dul-Ka'ada, et proelium contra Nadiraeos. Vetitum est vinum post proelium Ohodense. Uxorem duxit Hafç et 'Othman sibi junxit Omm-Kelthum; et natus est el-Hasan Ben

الله بن يوسف امام الحرمین عن والده ابي محمد عن ابي بكر عبد الله بن احمد بن عبد الله بن احمد الثغالی المروزي الصغير وهو امام طريقة خراسان عن ابي نريد محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد المروزي عن ابي احمد المروزي عن ابن سريج كما سبق و تفقه شيخنا الامام ابو الحسن سلار علي جماعات * منهم الامام ابو بكر الماهاني وتفقه الماهاني علي ابن البرزقي بطريقة السابقة * فهذا مختصر السلسلة * ومعلوم ان كل واحد من هؤلاء اخذ عن جماعة بل جماعات لكن اهدت الاختصار وبسبب واحد من شيوخ كل واحد وذكرت اجلهم واشهرهم له * وسأوضحهم باحوالهم وتراجهم في هذا الكتاب ان شاء الله تعالی الا شيوخنا المتأخرين * نأذنه لا ذكر لاكثرهم في هذا وقد ذكرتهم في كتاب الطبقات * وبالله التوفيق * فصل

ابتداء التاريخ في الاسلام من هجرة رسول الله صلعم من مكة الي مدينة وهذا مجمع عليه ولول من ارض بالهجرة عمر بين الخطاب رضىه سنة سبع عشرة من الهجرة * وهذه احرف في بيان جملة من الامور المشهورة في كل سنة من سني الهجرة الي وفاة رسول الله صلعم علي ترتيب السنين * وفي عشر سنين الاولى فيها بني النبي صلعم مسجده ومسكنه وآخا بين المهاجرين والانتصار واسلم عبد الله بن سلام وشرع الاذان * الثانية فيها حولت القبلة الي الكعبة بعد ستة عشر او سبعة عشر شهراً من الهجرة وفي شعيبان منها فرض صوم رمضان شهده وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها كانت غزوة بدر في رمضان وفي شوال منها بني بعاشة وفيها تزوج علي ناطمة * الثالثة فيها غزوات سراها منها غزوة احدى يوم السبة السابع من شوال * ثم غزوة بدر الصغرى لالهلال ذي القعدة وقبها غزوة النصير وحرمت الحرم بعد احدى * وتزوج فيها حفص وتزوج عمن ام كلثوم وولد الحسن

mān, noti sub nomine Ibn eḡ-Calāh. Hic interfuit scholis patris sui, qui didicit regulam 'Irakitarum ab 'Abu Sa'id 'Abdolla Ben Mohammed Ben Hebat-Alla Ben 'Ali Ben 'Aḡrun Mauḡelita. Et usus est Abu Sa'id institutione Kādi Abi 'Ali el-Fāreki, et el-Fāreki institutione Doctoris Abi Ishak Schirazitae, et Doctor Abu Ishak institutione Abil-Hasan Mohammed Ben 'Ali Ben Sahl Ben Muḡlih el-Māsārgesi, et el-Māsārgesi institutione Abi Ishak Ibrahim Ben Ahmed el-Meruzi, et Abu Ishak institutione Abil-Abbās Ahmed Ben 'Omar Ben Soraig, et Ibn Soraig institutione Abil-Kasem 'Othmān Ben Baschsehār el-Anmā'ti, et el-Anmā'ti institutione Abi Ibrahim Isma'il Ben Jalja el-Mozani, et el-Mozani institutione Abi 'Abdolla Mohammed Ben Edris Schāfe'ji, gratum habeat eum Deus! et usus est Sebāfe'ji institutione multorum virorum, inter quos Abu 'Abdolla Malek Ben Anas, Imamas Medinae; et Malek institutus est a Rabia, ejus praeceptor erat Anas, et a Nafe', ejus praeceptor Ibn 'Omar, qui ambo acceperunt a Propheta, propitius sit ei Deus et favens! Et doctor secundus Schāfe'ji, miseratur ejus Deus! erat Sofjan Ben 'Ojaina, qui ab 'Amr Ben Desār accepit, hic ab Ibn 'Omar et Ibn 'Abbās, gratos habeat eos Deus! Et doctor tertius Sebāfe'ji, gratum habeat eum Deus! erat 'Abu Chāled Moslem Ben Chāled, Mufti Meceae et Imamus incolarum ejus; et usus est Moslem institutione Abil-Walid 'Abdol-Malek Ben 'Abdol-'Aziz Ben ḡoraig, et Ben ḡoraig institutione Abi Mohammed 'A'tā Ben Aslam Ben Abi Rabāh, et 'A'tā institutione Abil-'Abbās 'Abd Ben 'Abbās, et accepit Ben 'Abbās a Legato Dei, propitius sit ei Deus et favens! et ab 'Omar Ben el-Cha'ttāb, 'Alio et Zaid Ben Thāhet et a plurimis Comitum, gratos habeat eos Deus! qui acceperunt a Legato Dei, propitius sit ei Deus et favens!

Regulam doctorum nostrorum in Chorasān accepit a doctoribus nostris commemoratis; et acceperunt eam doctores nostri tres ab Abu 'Amr, hic a patre suo, hic ab Abul-Kasem Ben el-Barezi el-Harari, hic ab Abul-Hasan 'Ali Ben Mohammed Ben Ali el-Keja el-Harrāsi hic ab Abul-Ma'ālī Abdol-Malek Ben 'Abdolla Ben Jusuf Ben 'Abdolla Ben Jusuf,

المعروف بابن الصّلاح * وتفقه هو علي والده وتفقه والده في طريقة العراقيين علي ابي سعيد
 عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن عمرو الموصلي * وتفقه ابو سعيد علي
 القاضي ابي علي الفارقي وتفقه الفارقي علي الشيخ ابي احمد الشيرازي وتفقه الشيخ ابو
 احمد علي ابي الحسن محمد بن علي بن سهل بن مصلح الماسرجسي وتفقه
 الماسرجسي علي ابي احمد ابراهيم بن احمد المرزبي وتفقه ابو احمد علي ابي العباس احمد
 بن عمر بن سرجج وتفقه ابن سرجج علي ابي القاسم عثمان بن بشار الانماطي وتفقه الانماطي
 علي ابي ابراهيم اسماعيل بن يحيى المرزي وتفقه المرزي علي ابي عبد الله محمد بن ادرس
 الشافعي رضي الله عنه وتفقه الشافعي علي جاعات منهم ابو عبد الله ملك بن انس
 امام المدينة ومالك علي ربيعة عن انس وعلي نافع عن ابن عمر كلاهما عن النبي صلعم
 والشيخ الثاني للشافعي رحمه الله سفر بن عبيد بن عمرو بن دسار عن ابن عمر وابن
 عباس رضي الله عنهم * والشيخ الثالث للشافعي رضي الله عنه ابو خالد مسلم بن خالد
 مقبي مكنة وامام اعلمها وتفقه مسلم علي ابي الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن
 جريج وتفقه بن جريج علي ابي محمد عطاء بن اسلم بن ابي رباح وتفقه عطاء علي ابي
 العباس عبد بن عباس واخذ بن عباس عن رسول الله صلعم وعن عمر بن الخطاب وعلي
 وزيد بن ثابت وجاعات من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلعم .

واما طريقة اصحابنا الحرامانية فاخذتها عن شيوخنا المذكورين * واخذها
 شيوخنا الثلاثة عن ابي عمرو عن والده عن ابي القاسم بن البرزبي الحريري عن ابي الحسن
 علي بن محمد بن علي اكبا الهراحي عن ابي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف عبد

scientiae cognitum habeant. Nam traditio tantummodo est historia, quatenus veri arbitri prodiderunt eam, minime quod alii nihil prorsus de ea cognitum habeant. Et Deus non ignorat.

De propagatione divinae scientiae inter socios Schafe'ji, misereatur ejus Deus! ab his ad Schafejum, misereatur ejus Deus! et deinde ad Legatum Dei, propitius sit ei Deus et favens! — Hae sunt quaestiones magni momenti et pretiosae res insignes, quarum notitia necessaria est studioso et Jurisconsulto et quas ignorasse ei turpe est; nam doctores ejus in scientia sunt patres in religione et conjunctio inter eum et Dominum mundorum, et quam turpe est ignorare cognationes et conjunctionem inter se et Dominum suum excelsum, munificum! praeterea quod mandatae sunt ei preces et amoris officium erga eos et commemoratio beneficiorum eorum et laudatio eorum et gratiarum actio. Janque commemorabo eos a me usque ad Legatum Dei, propitius sit ei Deus et favens! et tunc cognoscitur, cujus regula nostro tempore et retro ab eo in universum regulae meae convenit. Equidem accepi religionis scientiam legendo Koranum, emendando, audiendo, explicando et referendo a multis hominibus, quorum primus doctor meus Imamus, aequae praecellens scientia, abstinentia et reverentia et multitudine adorationum et magnitudine praestantiae suae et excellentia sua in his rebus inter aequales suos, Abu Ibrahim Ishak Ben Ahmed Ben 'Othmân Mauritanus, postea Hierosolymitanus, gratum habeat eum Deus et gratificetur ei, et jungat me et illum et amicos nostros in domo majestatis suae cum selectis suis! Deinde doctor noster Abu Mohammed 'Abdorrahman Ben Nuh Ben Mohammed Ben Ibrahim Ben Musa Hierosolymitanus, postea Damascenus, Imamus sapiens, abstinens, adorans, reverens, peritus, Mufti Damasci suo tempore, misereatur ejus Deus! Deinde doctor noster Abu Hafç 'Omar Ben As'ad Ben Abi Gäleb er-Raba'i (cum Fatha literae Be), Arbelita, Imamus peritus, gratum habeat eum Deus! Deinde doctor noster Abul-Hasan Sellâr Ben el-Hasan Arbelita, postea Halebensis, postea Damascenus, qui conjunxit Imami munus eum magnitudine sua et praestantia in scientia regulae inter viros sui temporis in his regionibus, gratum habeat eum Deus! Et usi sunt doctores nostri tres priores institutione doctoris eorum, Imami Abu 'Omar et 'Othmân Ben 'Abdorrahman Ben 'Oth-

كأن بعض الفساق يعرف شيئاً من العلم فإن الحديث إنما هو انخباراً بأن العدول يحملونه
لا أن غيرهم لا يعرف شيئاً منه والله اعلم ❦ فصل

في سلسلة التفقه لأصحاب الشافعي رحمة الله عليهم منهم الي الشافعي رحمة الله ثم
الي رسول الله صلعم * وهذا من المطلوبات المهمات والنفاس الجليلات التي تنبغي
للمتفقه والغقبه معرفتها وتقبح به جهالتها فان شيوخه في العلم اباء في الدين ووصلة بينه
وبين رب العالمين وكيف لا يقبح جهل الانساب والوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب مع
انه مأمور بالدعاء وريهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم وشكرهم ❦ فاذا ذكرهم مني الي رسول
الله صلعم وحينئذ يعرف من كان في عصرنا وبعده طريقتاً باجماعهم في طريقتي قريبات
نأماً انا فاخذت الفقه قرآنة وتصحيحاً وسامعاً وشرحاً وتعليقاً عن جماعات اولهم شيخي
الامام المتفق علي علمه وزهده وورعه وكثرة عباداته وعظم فضله وقهره في ذلك علي
اشكاله ابو ابراهيم اصحف بن احمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي رضي الله عنه وارضاء
وجع بيني وبينه وبين ساهر احبابنا في دار كرامته مع من اصطفاه * ثم شيخنا ابو
محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن ابراهيم بن موسى القدسي ثم الدمشقي الامام
العارف الزاهد العابد الورع المتقن مفي دمشق في وقت رحمة الله * ثم شيخنا ابو حفص
عمر بن اسعد بن ابي غالب الربيعي بفتح الباء الاربلي الامام المتقن رضي الله عنه * ثم
شيخنا ابو الحسن سائر بن الحسن الاربلي ثم الحلبي ثم الدمشقي الجميع علي امامته
وجلالته وتقدمه في علم المذهب علي اهل عصره بهذه النواحي رضي الله عنه ❦ وتفقه
شيوخنا الثلاثة الاولون علي شيخهم الامام ابي عمر وعثمان بن عبد الرحمن بن عثمان

Abu Bekr 'Abdorrahman Ben el-Hâreth Ben Heschân, quem commemorat autor Concinni in capite electionis in matrimonium. Et fusius exponemus de iis in articulis eorum, juvante Deo, qui exaltetur!

Nunc Asseclarum Sectatoribus et iis, qui hos secuti sunt, est praestantia in universum, attamen non attingunt, ex quo in universum eos spectas, antecedentes suos. Traditio est Amasi, gratum habeat eum Deus! in Veritate Bocharii, Legatum Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixisse: Quid est ex quodam auno, vel quid post eum, pejus est illo. In Veritate Bochari iterum Mordâs Aslenita, gratum habeat eum Deus! tradidit: Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixit: Abierunt probi, primus et iterum primus, et reliqui sunt pravi, sicut pravum hordei et daetyli; non curabit eos Deus. (Dicitur: Non curo Zaidum **بأئ** vel **بالئ** vel **بئي** cum Kesre literae Be, in forma apocopata, i. e. nec curo, nec respicio ad eum). Nihilò tamen minus per se habent praestantias manifestas et memoriter tenendo scientiam, signa eminentia, qua de causa in duobus libris Veritatum traditur, Legatum Dei, cui pax sit! dixisse: Non cessabunt nonnulli homines sectae meae praestare jure, quibus non nocent dissensiones dissentientium. Et omnes viri docti vel major eorum pars consentit, eos esse servatores scientiae. Et fausta precatus est iis Propheta, propitius sit ei Deus et favens! dicens: Bonis ornet Deus virum, qui audivit dicta mea, eaque retinet et reddit, sicut ea audivit. Et constituit eos arbitros veros et jussit eos prodere ejus doctrinam; quare dixit, propitius sit ei Deus et favens! •Referat testis ex vobis absenti; et in traditione postrema: Proditur haec scientia a quoque successore; veri ejus arbitri repellent ab ea immutationem modum excedentem et depravationem vana tractantium et interpretationem ignorantium. Hae autem traditiones de eo, propitius sit ei Deus et favens! servatae sunt custodia scientiae, memoriter eam tenendo et vero arbitrio translatorum ejus. Nam Deus, qui exaltetur! imposuit ei justo tempore successorem ex veris arbitris, qui eam ferunt et repellunt ab ea immutationem et sic porro, neque periet. Haec est expositio veri arbitrii eorum, qui prodiderunt eam quoque tempore; et ita accidit, laus Deo! Et hoc signum est prophetiae, nec, quum res ita sit, nocet, quod nonnulli improbi quidquam

بن عمر بن الخطاب او ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقد ذكره صاحب المهذب في باب الخبر في النكاح * وسنوتهم في تراجمهم ان شاء الله تعالى

وأما تابعوا التابعين ومن بعدهم فلم يفضل في الجلة ولكن لا يلتصقون من حيث الجلة من قبلهم لحدث انيس رضي الله عنه * في صحيح البخاري ان رسول الله صلعم قال ما من من عام الا والذي بعده شر منه وفي صحيح البخاري ايضاً عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلعم يذهب الصالحون الاول نالوا وبقي حفالة كحفالة الشعر والتمر لا يبالهم الله بالة بقال لا ابالي زهداً بالاً ولا بالة وبلي بكسر الباء مقصور اي لا اكترت به ولا اهتم له ومع هذا فلم ي في انفسهم فضائل ظاهرة وفي حفظ العلم ايات باهرة ففي الصحيحين ان النبي عليه السلام قال لا يزال طائفة من امتي ظاهرين علي الحق لا يضرهم جدلان من حدثهم وجملة العلماء لو جهوههم علي انهم حلة العلم وقد دعا لهم النبي صلعم فقال نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ناداها كما سمعها وجعلهم عدولاً نامرهم بالتبليغ عنه فقال صلعم لبيغ الشاهد منكم القاب وفي الحديث الآخر يحمل هذا العلم من كل خلف هديله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين * وهذا اخبار منه صلعم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقله فان الله تعالي يوفق له في عصر خلفاً من العدل يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده * ولا يضيع وهذا تصریح بعدالة حامله في كل عصر وهكذا وقع والله الجهد وهذا من اعلام النبوة ولا يضر مع هذا

dissentiant, uter praecesserit. Et postremus eorum Abu't-'Tofail 'Ämer Ben Wäthala, gratum habeat eum Deus! obiit anno centesimo post fugam, ex consensu virorum doctorum. Conveniunt etiam, hunc ultimum Comitum, gratos habeat eos Deus! obiisse.

Quod attinet ad *Asseclas* (in forma singulari تابع و تابعي), rectam vocis significationem et praestantiam eorum jam supra commemoravimus. Graduum dignitatis eorum, dixit cl-Häkim Abu 'Abdolla Hafit Nisaburensis, sunt quindecim classes, ad quarum primam pertinent, qui viderunt decem Comites; ex his Kais Ben Abi Häzem, qui audivit decem illos et tradidit, quae accepit ab iis, nec quisquam ei consors fuit in hac re, quamquam dicitur, eum non audivisse 'Abdorrahman. Hos sequuntur, qui nati sunt vivente Legato Dei, propitius sit ei Deus et favens! filii Comitum. — Deinde commemorat eorum classes. Et in Veritate Moslemi traditur, Legatum Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixisse de Owaiso Karanita: Hic est optimus Asseclarum, gratum habeat cum Deus! Dixit vero Ahmed Ben Hanbal: Praestantissimus Asseclarum est Sa'id Ben cl-Musajjab, qui nominatur etiam 'Alkama et cl-Aswad; et dicit Sa'id et 'Alkama et cl-Aswad. Et ab eo traditur: Non mihi notus est quisquam inter eos, qui similis sit Abu 'Othmân cu-Nahadi et Kais Ben Abi Häzem; item tradidit: Praestantissimi eorum sunt Kais et Abu 'Othmân et 'Alkama et Masruk; et fortasse voluit dicere: praestantissimi eorum in externis scientiis legis; et nisi hic, Owais optimus esset Asseclarum. Et dixit Abu 'Abdolla Ben Chafif ex-Zähed: Medinenses nominant optimum Asseclarum Ben cl-Musajjab, Kufcenses Owaisum et Baçrensés el-Hasanum. Ad praestantes Asseclas pertinent Jurisconsulti septem Medinenses Sa'id Ben cl-Musajjab, 'Orwa Ben ez-Zobair, el-Kasem Ben Mohammed, 'Obaidolla Ben Abdolla Ben 'Otba Ben Mas'ud, Charega Ben Zaid, Solaiman Ben Jasâr et de septimo tres exstant opiniones, num fuerit Abu Salma Ben 'Abdorrahman Ben Auf, an Sälem Ben 'Abdolla Ben 'Omar Ben el-Cha'ttâb, an

الصَّحْبِجِ واختلَفوا في أَيْهَمَا سَبَقَ * وَأَخْرَجَهُم وَنَاةَ أَبُو الطَّيْبِلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوِّفِيَ سَنَةَ مِائَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَأَتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ آخِرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَنَاةٌ ۞

وَأَمَّا التَّابِعُونَ فَوَاحِدُهُمْ تَابِعٌ وَتَابِعِيٌّ وَقَدْ ذَكَرْنَا حَقِيقَتَهُ وَفَضْلَهُمْ * وَأَمَّا مَرَاتِبُهُمْ فَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ النَّبَسَابُورِيُّ هُمْ خَمْسُ عَشْرَةَ طَبَقَةً أَوْلَاهُمْ الَّذِينَ ادْرَكُوا لِعَشْرَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ * مِنْهُمْ قَبَسُ بْنُ أَبِي حَارِثٍ سَمِعَ الْعَشْرَةَ وَرَوَى عَنْهُمْ وَلَمْ يُشَارِكْ فِي هَذَا أَحَدٌ وَقَبِلَ لَمْ يَسْمَعْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ * وَهَلَبَهُمُ الَّذِينَ وَلَدُوا فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ * ثُمَّ ذَكَرَ طَبَقَاتِهِمْ ۞ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَوْسِ الْقُرَيْشِيِّ هُوَ خَيْرُ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ * وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَفْضَلُ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَقَبِلَ لَهُ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ فَقَالَ سَعِيدٌ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ * وَعَنْهُ لَا أَعْلَمُ فِيهِمْ مِثْلَ أَبِي عَمْرِو بْنِ النَّهْدِيِّ وَقَبَسُ بْنُ أَبِي حَارِثٍ وَعَنْهُ أَفْضَلُهُمْ قَبَسُ بْنُ أَبِي عَمْرٍاءَ وَعَلْقَمَةُ وَمَسْرُوتُ * وَلَعَلَّهُ ارْتَادَ أَفْضَلَهُمْ فِي ظَاهِرِ عُلُومِ الشَّرْعِ وَالْأَفْضَلُ نَافِيسُ خَيْرِ التَّابِعِينَ ۞ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلْفَةَ الرَّاعِدِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِقَوْلَانِ أَفْضَلُ التَّابِعِينَ بَيْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ أَوْسُ بْنُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ الْحَسَنِ ۞ وَمِنْ فَضْلِهِ التَّابِعِينَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ فَقِيَاهُ الْمَدِينَةِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ وَالْقَسَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَخَارِجَةُ بْنُ نَزِيدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بَسَّارٍ وَفِي السَّابِقِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ هَلْ هُوَ أَبُو سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَوْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

sunt in faecibus eorum ex vestigiis adorationis — usque ad finem Surae. Iterum dixit Deus: Vos estis optima gens, quae producta fuerit hominibus; praecipitis justum et prohibetis ab injusto. Et iterum: Et ita posuimus vos gentem eximiam. Et in duobus libris Veritatum 'Omrân Ben el-Hoçain, gratum habeat enim Deus! tradidit: Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixit: Optimi vestrum sunt aequales mei, deinde qui sequuntur hos, deinde qui sequuntur hos. In Veritate hoc exstat Prophetae dictum: Si quis vestrum erogaret sicut Ohod aurum, non perveniret ad mensuram unius eorum, neque ejus dimidium. Traditiones de praestantia Comitum, gratos habeat eos Deus! in universum multae divulgatae sunt in duobus libris Veritatum et aliis. Quod autem attinet ad gradus dignitatis pluribus vel singulis hominibus proprios, plures sunt, quam qui numero comprehendi possint, et commemorabimus in articulis eorum magnam eorum copiam, juvante Deo, qui exaltetur! Ad praestantissimos inter Comites, gratos habeat eos Deus! pertinent decem illi, quibus Propheta, propitius sit ei Deus et favens! destinavit Paradisum, et sunt sequentes: Abu Bekr, 'Omar, 'Othmân, 'Ali, 'Talha, ez-Zohair, Sa'ad Ben Abi Wakkâç, Sa'id Ben Zaid, Abu 'Obaida Ibn el-Ġarrâh et 'Ahdorrhman Ben 'Auf, gratos habeat eos Deus! His adnumerandi sunt, qui adfuere pugnis Bedrensi, Ohodensi et sacramento priori et posteriori ad 'Akaba et populus Sacramenti beneplaciti sub arbore. Dixit Deus, qui exaltetur! Jam quidem gratos habuit Deus fideles, quum sacramentum jurarent tibi sub arbore etc. Dixit Imâmus Abu Maçur Bagdadensis: Viri docti nostri consentiunt, praestantissimos eorum esse Successores quatuor, deinde omnes decem, deinde Bedrenses, Ohodenses et populum Sacramenti beneplaciti. Et constituerunt Sunnitae, praestantissimum eorum in universum esse Abu Bekr, deinde 'Omar, et posuerunt plurimi eorum 'Othmânnum ante 'Ali, gratos habeat eos Deus! Dixit el-Cha'tâi: Ponunt autem Sunnitae urbis Kufae 'Alium ante 'Othmân; et haec de re dixit Ibn Chozaima, merito id fieri. Sed plurimi praeposunt 'Othmânnum; quam ob causam elegerunt eum Comites Chalifam et praeposuerunt eum, et hi optime sciunt et norunt gradus dignitatis. — Primi omnium Islamismum amplexi sunt Chadigâ filia Chowailadi et Abu Bekr. Hoc verum est, sed

ورضواناً سباهم في وجوههم من اثر الشجرود الي آخر السورة ۞ وقال تعالى كنتم خير
 امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر * وقال تعالى وكذلك
 جعلناكم امة وسطاً ۞ وفي الصحاحين عن عمران بن الحصين رضيهم قال قال رسول الله
 صلعم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم * وفي الصحاح قوله صلعم لو
 انفق احدكم مثل اُحد ذهباً ما بلغ مدّ احدهم ولا نصيفه اي نصّفه ۞ والاحاديث
 في فضل الصحابة رضي الله عنهم علي الاطلاق كثيرة مشهورة في الصحاحين وغيرها ۞
 واما فضائلهم علي الخصوص لطائفة ولاشخاص فاكثر من ان تحصر وسنذكر في تراجمهم
 منها جهلاً ان شاء الله تعالى ۞ فَمَمَّنْ لَهُ مَرْبَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْعَشْرَةُ
 الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَمَّةِ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ
 وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمْ ۞ ومنها اهل بدر وأحد والعقبتين الاولى والثانية واهل بيعة الرضوان تحت
 الشجرة * قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة
 الآية ۞ قال الامام ابو منصور البغدادي انحابنا يجمعون علي ان افضلهم الخلفاء الاربعة
 ثم عام العشرة ثم اهل بدر ثم أحد ثم بيعة الرضوان * واجمع اهل السنة علي ان
 افضلهم علي الاطلاق ابو بكر ثم عمر وتقدم جهورهم عثمان علي علي رضي الله عنهم ۞
 قال الخطابي وتقدم اهل السنة من اهل الكوفة علياً علي عثمان * ويه قال ابن خزيمة
 والصحاح * وقول الجهور تقدم عثمان ولهذا اختارته الصحابة للخلافة وقدموه *
 وهم اعلم واعرف بالراتب ۞ واولهم اسلاماً خديجة بنت خويلد وابو بكر هذا هو

tuor per annos, ab ea genus ejus nominatur. — Commemorant servorum quoque genus secundum tribum, ex dicto Prophetæ: Servi populi sunt ejusdem generis cum eo, sive sit servus manumissus, sive servus ex pacto, quorum sunt plurimi, et Christianus, sive servus Islamiticus, ita ut Islamismum professus sit cuidam ex tribu; sicut Bochâri Imamus, servus Ġo'fitarum, ex cujus avis quidam Islamismum professus erat cuidam Ġo'fitarum; quod fusius infra in ejus vita exponam, juvante Deo, qui exaltetur! Commemorant quoque genus secundum tribum servi ejusdam servi, e. c. Abu Habâb Haschemita, servus Schokrâni, servi Legati Dei, propitius sit ei Deus et favens!

De recta definitione Comitum et Asseclæ et de expositione præstantiæ eorum; item de dignitatis gradu Comitum et Asseclæ, eorumque Sæctorum. — Quis sit Comes appellandus, duæ sunt opiiones, quarum rector, quam sequitur Bochâri ceterique Traditionarii, plurimi Jurisconsulti et alii, hæc est: Comitem esse, quicumque Moslemorum viderit Prophetam, propitius sit ei Deus et favens! etsi tantum per paullulum temporis, licet neque assederit ei, neque eum comitatus sit. Altera opinio, quam sequuntur plurimi auctores dogmatum fundamentalium est: Comitem esse aliquem ea conditione, ut assederit ei. Alteram flagitat æquitas, alteram lingua. Eodem modo exposuit hoc Imamus Abu Bekr el-Bâkelâni et alii, miseretur ejus Deus! — Item quis sit Assecla, duplex est sententia, quarum altera definit ita: qui vidit Comitem, altera: qui assedit Comiti. Dixit Deus qui exaltetur! præcedunt primi ex Sociis fugæ et Adjutoribus et qui hos secuti sunt beneficiendo, gratos habeat eos Deus et gratum habeant eum! et paravit iis sedes beatorum, quas præterfluunt fluvii etc. Dissentiunt de significatione Præcedentium hoc versu; et dixit Sa'id Ben el-Musajjab et alii: indicantur qui duobus tractibus dirigunt vultum inter precandum; et esch-Scho'abi accepit populum Sacramenti beneplaciti; et Mohammed Ben Ka'ab Kora'tita et 'A'tâ intelligunt populum Bedrensem. Deus, qui exaltetur! dixit: Mohammed est Legatus Dei; qui vero sunt cum eo, feroces sunt contra infideles, misericordes inter se. Videbis eos sese incurvantes, supplices, ut expetant bona a Deo et beneplacitum; signa eorum

اربع سنين نُسِبَ اليه ﷺ، وينسبون الي القبيلة مولاهم لقوله صلعم موالى القوم من انفسهم وسواء كان مولى عتاقة او مولى حليف وهو الاكثر ومُذَاعِرَةٌ او مولى اسلام بيان اَسَلَّمَ علي يد واحد من القبيلة كالبخاري الامام مولى الجعفيين اسلم بعض اجداده علي يد واحد من الجعفيين * وَسَمُوهُمْ فِي تَرْجُمَتِهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى ﷻ. وقد ينسبون الي القبيلة مولى مولاها كابي حباب الهاشمي مولا شُرَّان مولى رسول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ فصل

في حقيقة الصحابي والتابعي وبيان فضلهم ومراتب الصحابة والتابعين واتباعهم ﷺ
 اما الصحابي ففيه مذهبان احدهما وهو مذهب البخاري وسائر المحدثين وجماعة من الفتحاء وغيرهم اذ كل مسلم رأي النبي صلعم ولو ساعة وان لم يجالسهم ويخالطهم * والثاني وهو مذهب اكثر اهل الاصول اذ يشترط مجالسته * فهذا مقتضى العرف وذاك مقتضى اللغة ﷻ وهكذا قال الامام ابو بكر الباقلي وغيره رحمه الله ﷻ. واما التابعي ففيه ايضا مذهبان احدهما الذي رأي صحابيا والثاني اذ الذي جالس صحابيا. قال الله تعالى والسائقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار الآية * واختلقوا في المراد بالسابقين في الآيه فقال سعيد بن المسيب وآخرون هم من صلي الي القبيلتين وقال الشعبي اهل بيعة الرضوان وقال محمد بن كعب القرظي وعطاء هم اهل بدر ﷻ. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشدا علي الكفار رحمه بينهم تربيتهم ركعة مجداً يبتغون فضلاً من الله

Mos est Imamorum solertium, qui composuerunt libros de nominibus et originibus, commemorandi genus ejusdam viri generale, deinde speciale, ut proveniat ex secunda voce utilitas, quae primae non inest, ita ut dicant exempli causa: Vir filius illius, Koraischita-Häschemita, quia inde, quod Koraischita est, non sequitur eum esse Häschemitam. Sed non invertunt hoc, dicentes: Häschemita-Koraischita, quia tum secundo verbo nihil inesset utilitatis; nam inde, quod Häschemita est, sequitur eum esse Koraischitam. Sin autem dieis, non opus esse commemorare, eum esse Koraischitam et sufficere commemorationem originis Häschemiticae, respondeo, ignorare nonnullos homines, Häschemitam etiam esse Koraischitam; et apparet haec ignorantia in minoribus tribubus incognitis, sicut Aschhalium esse ex Auçârriis, unde dicitur Ançârrio-Aschhalium; et si acquiescerent in dicendo «Aschhalium», multi homines uescirent, num Aschhalium esset ex Ançârriis, nec ne; et quid est hujusmodi. Commemorant ergo genus generale, deinde speciale, ad propulsandam hanc opinionem; interdum contenti sunt genere speciali, interdum generali; sed horum pauci sunt. Deinde saepe addunt provinciam, deinde tribum, et dieunt: Koraischita-Meeceensis aut Medineensis; et si ejusdam genus ex duabus provinciis nominatur, ita ut primum in hac, deinde in illa commemoratus fuerit, ambas plerumque referunt, interdum tamen earum una contenti sunt. Si commemorant genus ex duabus, praefereunt primam et dicunt: Meeceense-Damascenus; nam uomen Meeceensis pulchrius est, quam Damasceni. Et si est ex urbe provinciae, nominant genus mox secundum urbem, mox secundum provinciam, mox secundum ambas; et tunc primo loco ponunt provinciam, quippe quae communior est, sicut id, quod praecessit de tribubus. Dieunt igitur de quodam, qui est incola Ğerschijae, unius urbium el-Guta, qui est unus ex tractibus Damasci: hic est Damasceno-Ğerschijanita; et e. g. dieunt: hic est Syro-Damasceno-Ğerschijanita, ita ut commemorent genus secundum regionem, provinciam, urbem. Et interdum addunt tractum et dicunt: Gutio-Ğerschijanita, vel Syro-Damasceno-Gutio-Ğerschijanita. Dixit 'Abdolla Ben el-Mobârek et alii: Si homo commemoratur in provincia qua-

عادة الأئمة الحدّان المصنّفين في الاسماء والانساب ان ينسبوا الرّجل التّسبّب العامّ ثمّ الخاصّ ليحصل في الثّاني نأدّة لم يكن في الأوّل فيقولون مثلاً فلان بن فلان القرهشيّ الهاشميّ لأنّه لا يلزم من كونه قرهشياً كونه هاشمياً * ولا يعكسون فيقولون الهاشميّ القرهشيّ لأنّه لا نأدّة في الثّاني حينئذٍ لأنّه يلزم من كونه هاشمياً كونه قرهشياً * بآنّ قبل فنبغي ان لا يذكر القرهشيّ بل يقتضوا علي الهاشميّ فالجواب انه قد خفي علي بعض النّاس كون الهاشميّ قرهشياً وبظنهم هذا الخفاء في البُطون الخفّية كالاشهل من الانصار فيقال الانصاريّ الاشهليّ ولو اقتضوا علي الاشهليّ لم يعرف كثير من النّاس ان الاشهليّ من الانصار ام لا وكذا ما اشبهه فذكروا العامّ ثمّ الخاصّ لدفع هذا الوهم وقد يقتضون علي الخاصّ وقد يقتضون علي العامّ وهذا قلبه * ثمّ انهم قد ينسبون الي البلد ثمّ التّعبلة فيقولون القرهشيّ المكّيّ او المدنيّ واذا كان له نسب الي بلدين بان يستوطن احدهما ثمّ الآخر نسبوه غالباً اليهما وقد يقتضون علي احدهما * واذا نسبوه اليهما قدّموا الاول فقالوا المكّيّ الدمشقيّ والاحسن المكّيّ ثمّ الدمشقيّ * واذا كان من قرية بلدة نسبوه تارة الي القرية وتارة الي البلدة وتارة اليهما حينئذٍ قدّمون البلدة لأنها اعمّ كما سيّف في التّبادل فيقولون في من هو من اهل جرّشياً قرية من قرى القوطة التي في كورة من كورة دمشق فلان الدمشقيّ الجرشبانيّ وقد يقولون في مثل فلان الشاميّ الدمشقيّ الجرشبانيّ فينسبوه الي الاقليم ثمّ البلدة ثمّ القرية * وقد ينسبونه الي الكورة فيقولون القوطيّ الجرشبانيّ او الشاميّ الدمشقيّ القوطيّ الجرشبانيّ * قال عبد الله بن المبارك وغيره اذا اتام انسان في بلد

sit ei Deus et favens! nominavit eam Ġamila. Et interdictum est cognominare hominem nomine, quod deterret, etsi ex ejus indole sumptum sit, ut Hebes, Calvus, Coecus, Surdus, Depillatus, Leprosus, Strabus, Gibbosus, Flavus, Gibber, Caeculeus, Simus, perversas palpebras, fractos dentes habens, Truncatus, Obsoletus, Claudus, oculis orbatus; vel si cujusdam patri aut matri hujusmodi indoles sint, quae deterreant alios. — Consentiant autem viri docti, licitum esse cognominare aliquem eo, si alteri, quem edocere vis notus sit aliquis nonnisi hoc nomine; sicut illa, quae exempla posuimus. Nam haec sunt nomina Imamorum et virorum doctorum celebratorum his cognominibus in libris Traditionum, aliisque, quos plurimi homines non cognitos habent, nisi cognominibus. Consentiant quoque licitum esse cognominare aliquem cognomine pulchro, quod non deterret, ut 'Atik, cognomen Abi Bekr Veracis, gratum habeat eum Deus! et Abu Turab, cognomen 'Alii Ben Abi 'Taleb, et Dul-Jadain, cognomen el-Cherjaki Ben 'Amr, et Sorrak, cognomen el-Habali Ben Asad el-Gohani. Ii sunt Comites, gratos habeat eos Deus! quos cognominavit Propheta, propitius sit ei Deus et favens! his cognominibus, quippe quae valde jucunda erant. Licitum autem est cognomen omnibus Moslemis et pulchrum nobis est, si cognomine honorifico nominemus viros praestantes inter doctos, aliosque; et praestat cognominare aliquem secundum filium natu majorem. In Regula Abi David, gratum habeat eum Deus! aliasque hoc traditur: Propheta, propitius sit ei Deus et favens! quondam interrogavit virum de filio natu maximo, a quo cognominavit eum. Licitum quoque est cognominare aliquem ab alio, qui non est ejus filius, vel si cui prorsus nulli, vel nondum nati sunt filii, vel secundum infantem, sicut Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! quondam dixit: Oh Abu 'Amir, quo modo se habet en-Nogair? — Et licitum est cognominare virum a patre cujusdam foeminae, et mulierem a matre cujusdam viri aut foeminae. Nominatur Kâfer, qui celebris factus est cognomine suo, ut Abu Lahab, Abu 'Taleb, Abu Re'âl et alii. Quo nomine licitum sit cognominare Abul-Kasem dissentiant viri docti; quod fusius exposui in libro Memorabilium et in Horto, quare hic delego ad hos libros. Et in Deo auxilium!

صلعم جهلته ۞ ويحرم تلقب الانسان بما يكره سواء كان صفة له كالاعشى والجلج
 والاعي والاصم والقرع والابصر والاحول والاثنج والاصفر والاحدب والانهرق والافطس والاشتر
 والانهم والاقطع والزبين والمغعد والاشل سواء كان صفة لابهة أو أمه او غير ذلك مما يكرهه ۞
 واتفق العلماء على جواز ذكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا يعرفه الا بذلك كهؤلاء
 المذكورين في المثال * فانهم ائمة وعلماء مشهورون بهذه الالقب في كتب الحديث
 وغيرها ولا يعرفهم اكثر الناس الا باللقب ۞ واتفقوا على جواز تلقبه باللقب الحسن
 وما لا يكرهه كعتيق لقب ابو بكر الصديق رضي الله عنه واي تراب لقب علي بن
 ابي طالب وذو الابدس لقب الخرفات بن عمرو وسرق لقب الحباب بن اسد الجعفي *
 فهؤلاء محابيون رضي الله عنهم لقبهم النبي صلعم بهذه الالقب وكانوا يحبون ۞ ويجوز
 الكنية لكل مسلم ويستحب لنا ان نكفي اهل الفضل من العلماء وغيرهم ويستحب ان
 ياكفي باكثر اولاده وفي حديث في سنن ابي داود رضيده وغيره ان النبي صلعم سأل
 رجلا عن اكير اولاده فكتاه به ۞ ويجوز تكنيته بغير اولاده ويجوز تكنيته من
 لا ولد له ويجوز تكنيته من لم يولد له وتكنية الطفل كما كان رسول الله صلعم
 يقول يا ابا هرير ما فعل النغير ۞ ويجوز تكنية الرجل باني فلانة والمرأة بام فلان وام
 فلانة * ويكفي الكافر الذي اشهره بكنيته كابي لهب واي طالب واي عمال وغيرهم *
 وفي جواز التكني باني القاسم خلاف للعلماء ارضعته في كتاب الاذكار والريضة وانا اشهرها
 هنا * وبالله التوفيق ۞ فصل

monitio eorum auctoritatis. Quibus omnibus studiosus ad eorum lectionem dirigitur et instituitur, cuiusmodi ex iis fides habenda sit, et admonetur de mendis, a quibus cavendum est, etc. Et in Deo auxilium!

De eo, quod pertinet ad cognominationem et nomina et agnomina et cognomina. Jamque collegi sub his titulis rerum egregiarum magnam copiam in libro Memorabilium et afferam hic juvante Deo nonnulla maxime praestantium inter eas. — Valde jucundum est pulchra reddere nomina secundum traditionem Abil-Dardâi, gratum habeat eum Deus! qui dicit: Dixit Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! «Vos vocamini die resurrectionis uominibus vestris, quare pulchra reddite nomina vestra.» Tradidit hoc Abu David allegata auctoritate optima. Ibn 'Omar in Veritate Moslemi, gratos habeat eos Deus! tradidit: Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixit: Nomina dilectissima Deo sunt 'Abdolla et 'Abdorrahmau; et in Regula Abi David et in libro Diversitatum Abu Ben Wahab el-Gaschemi, Comes, gratum habeat eum Deus! tradidit: Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixit: Nominate vos nominibus Prophetarum et dilectissima nomina Deo sunt 'Abdolla et 'Abdorrahman, et maxime siuecra Hâreth et Hammâm, et foedissima Harb et Morra. In Veritate Moslemi Samora Ben Goudeb, gratum habeat eum Deus! tradidit: Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixit: Ne nomines seruum tuum Jasâr, nec Rabâh, nec Nagâh, neque Aflah; nam si dicis, vitium est, et uon est, dicit ille: miuime. — Jucunda autem est mutatio nominis foedi in pulchrum. In duobus libris Veritatum Abu Houraira, gratum habeat eum Deus! tradidit: Zainab nomen tulit Barra, et dicebant homines: purgat se ipsam. Sed Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! nominavit eam Zainab. Et in Veritate Moslemi Zainab, filia Abi Selma, gratam habeat eam Deus! tradidit: Nominabar Barra, sed Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixit: Nominate eam Zainab. Pergit illa: Iutavit ad eum Zainab, filia Hageschi, quae nominabatur Barra; sed Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! nominavit eam Zainab. Et in Moslemi Veritate Ibn 'Omar, gratos habeat eos Deus! tradidit: 'Omaro erat filia, cui uomen Barçija; sed Legatus Dei, propitius

علي مراتبها * وفي ذلك إرشاد للطالب الي تحصيلها وتعريف له ما يعتمد منها وتحذيره
مما يخاف من الاعتزاز به وغير ذلك * وبالله التوفيق . فصل

يتعلق بالتسمية والاسماء والكلي واللقاب * وقد جعت في هذه الاقسام جُلاً
نفسية في كتاب الازكار وأنا أشير هنا ان شاء الله الي نُبيد من عبون ذلك يستحب
تسعين الاسم لحدث اي الدرده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلعم انكم تدعون يوم
القيامة باسمائكم فاحسنوا اسماءكم رواه ابو داود باسناد جيد * وفي صحيح مسلم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلعم ان احب اسمائكم الي الله عبد
الله وعبد الرحمن وفي سنن ابى داود والنسائي عن ابى بن وهب الجشمي الصنعائي رضي
الله عنه قال قال رسول الله صلعم سموا الانبياء واحب الاسماء الي الله عبد الله
وعبد الرحمن واصدقها حارث وهام واقبحها حرب ومرة * وفي صحيح مسلم عن سمرة بن
جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلعم لا تسمن غلامك سماراً ولا رباحاً ولا
نجاحاً ولا ابلح فانك تقول اثم هو فلا يكون فيقول لا . ويستحب تغيير الاسم
القبح الي حسبي * ففي الصحيحين عن ابى هريرة رضي الله عنه ان ترهبب كان اسمها
برة فقيل تركي نفسها فسماها رسول الله صلعم ترهبب * وفي صحيح مسلم عن ترهبب
بنت ابى سلمة رضيها قالت سميت برة فقال رسول الله صلعم سموها ترهبب قالت ودخلت
عليه ترهبب بنت عجلش واسمها برة فسماها رسول الله صلعم ترهبب . وفي صحيح
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابنة لعمر كان اسمها برصبة فسماها رسول الله

potestas, nisi Deo; sufficit mihi Deus, et o praeclarum curatorem! Neque vis, neque potentia, nisi Deo excelso, maximo! — Praemittam in initio libri nonnulla capita, quae sint ejus lectori basis et fundamentum.

Sic habeto, scientiae nominum virorum, eorumque conditionum et ditorum et dignitatum magnas inesse utilitates. Huc spectat notitia virtutum et conditionum eorum, ut bonos mores discas ex eorum moribus et tibi compares bonas eorum indoles; porro dignitates et faustae conditiones eorum, ut obtinere sinantur suam auctoritatem, nec diminuatur gradus honoris viri nobilis, neque alius plus aequo efferatur. Deus, qui exaltetur! dixit: consentire cum omnibus sapientibus est sapientis et prudentis. In Veritate Moslemi Ibn Mas'ud, gratam habeat cum Deus! tradidit: Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixit: Profecto proximi sequuntur me ex vobis sapientes et intelligentes; deinde, qui hos sequuntur, tertium locum obtinent. Et 'Ajescha, gratam habeat eam Deus! tradidit: Jussit nos Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! ut concedamus hominibus debitum honorem. Dixit el-Hakim Abu 'Abdolla in Doctrina traditionis, veram esse illam traditionem; et edocuit Abn David in Regula sua, eam divinitus missam esse. — Huc pertinet quoque, quod illi sunt Imami nostri et majores, sicut parentes, et usui nobis in rebus futurae vitae nostrae, quae est domus mansionis nostrae, et monitores nobis in iis, quae ad nostram utilitatem conferunt. Quare turpe est ignorare eos et negligere eorum notitiam. — Porro opus nostrum, ejusque praestantia nititur judicio sapientissimorum et piissimorum inter illos, si discrepant eorum judicia; quod clarius exposui in initio commentarii in Concinnum. — His accedit explicatio librorum eorum et quam obtinent dignitatem, et mendorum et com-

لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ولا حول ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ * وَاذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِصْلًا بِكُونِ لِمَحْصَلِهِ قَوَاعِدُ
 وَأَصُولًا * فَصَلْ

اعلم انَّ لمعرفة اسماء الرجال واحوالهم واقوالهم ومراتبهم فوايد
 كثيرة * منها معرفة مناقبهم واحوالهم فبتأديب بادابهم وبتقريب
 المحاسن من اثارهم * ومنها مراتبهم واعصارهم فينزولون منازلهم
 ولا يُقَصَّرُ بِالْعَالِي فِي الْجَلَالَةِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يَرْفَعُ غَيْرُهُ عَنْ مَرْتَبَتِهِ وَقَدْ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ وَثُبَّتْ * فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ
 مَعْسُودٍ رَضِيَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ الْوَيْهَاءُ
 ثُمَّ الْخَيْبَرُ بَلَوْنَهُمْ ثَلَاثًا * وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرْنَا رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ * قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي عِلْمِ
 الْحَدِيثِ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ إِلَى أَنَّهُ مُرْسَلٌ * وَمِنْهَا أَنَّهُمْ أَمْتَنَا
 وَأَسْلَفْنَا كَالْوَالِدَيْنِ لَنَا وَاجِدًا عَلَيْنَا فِي مَصَالِحِ آخِرَتِنَا الَّتِي فِي دَارِ قَرَارِنَا وَأَنْصَحَ
 لَنَا فِيهَا هُوَ أَعْوَدُ عَلَيْنَا * فَيَقْبَحُ بِنَا أَنْ نَجْهَلَهُمْ وَأَنْ نُهْمَلَ مَعْرِفَتَهُمْ * وَمِنْهَا
 أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ وَالْتِرَاجُحُ بِقَوْلِ أَعْلَمُهُمْ وَادْرَعُهُمْ إِذَا تَعَارَضَتْ أَقْوَالُهُمْ عَلَيَّ مَا ارْتَحَمْتَهُ
 فِي مَقْدَمَةِ شَرْحِ الْمَهَذَّبِ * وَمِنْهَا بَيَانُ مَصْنَعَاتِهِمْ وَمَالِهَا مِنَ الْجَلَالَةِ وَعَدَمِهَا وَالتَّنْبِيْهِ

ex praeponderatis. Praeposui mihi etiam in interpretandis Comitibus aliisque, explicare nomen, agnomen, gentilicium, patriam, partum et mortis tempus, praestantes ejus virtutes et memorabilia ejus vitae. Quibus addetur in nominibus jurisconsultorum, cujus scholis interfuerit et quae scripserit, num liber ejus praestet, nec ne, num fide dignus sit, nec ne, num multum repugnet viris doctis, an parum.

Videbis autem in his omnibus, juvante Deo, qui exaltetur! id, quo laetus evadet oculus tuus et propter quod inclinabis te ad repetitionem librorum sapientium cujusvis generis. Et spero, hunc librum, si finitus erit, fore ejus lectori exoptatum thesaurum omnis generis scientiarum, quae in eo continentur. — Auxilium meum in hac, aliisque rebus est adjumentum, vis, praesidium, custodia et ductus Dei excelsi, munifici, benigni, propitii, sapientis. Imploro ejus auxilium ob praestantiam propositi, ut facilem mihi reddat summam obedientiam et me dirigat ad eam constanter in incremento usque ad mortem, et ignoscat, si quid deliqui repugnando; et ut idem faciat parentibus et praeceptoribus meis atque propinquis et amicis nostris, ceterisque Moslemis viris et foeminis; et ut copiose largiatur nobis omnibus gratiam suam et amorem et constantiam obedientiae et conciliet nos in domo majestatis suae, omnibusque ceteris mysteriis; et ut prosit nobis omnibus hoc libro et conferat in nos beneficia, nec detrahat nobis, quae donavit et largitus est nobis bona; neque efficiat, ut quidquam eorum nos in discrimen adducat; et ut liberet nos ab omni repugnantia. Nam ille exaudit preces, largitur bona! Confido Deo, fretus sum Deo, quoad placuerit Deo! Nulla

من تراجم الصعابة وغيرهم بيان الاسم والكنية والنسب والبلد والمولد
والوفاة ونفيهم من مناقبه وعيون اخباره وينضم الي هذا في فقهه احبابنا
انه علي من تفقه عليه وما صنف وان تصنيفه نفيس أم لا واته يعتمد
ام لا واته قليل المخالفة للاصحاب او كثيرها

وستزي في كل ذلك ان شاء الله تعالى ما تقر به عينك وترغب بسببه في
مراجعة كتب العلماء من كل فن * وارجوا ان تم هذا الكتاب انه يحصل
لصاحبه مقصود خزانة من انواع العلوم التي تدخل فيه * واستدادي
في ذلك وفي غيره من اموري التوفيق والكفاية والاعانة والصيانة والهداية
من الله الكريم الوهاب اللطيف التواب الحكيم اسأله التوفيق بحسن
النيات وتبشير انواع الطاعات والهداية لها دائما في اترداد حتى اطاعت
ومغفرة مما ظلمت نفسي به في المخالفات وان يفعل ذلك بوالدي
ومشايخي واهلينا واحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات وان يجرود
علينا اجوعين بمرضاه ويحببته ودرام طاعته ويجمع بيننا في دار كرامته
وغير ذلك من انواع المسرات وان ينفعنا اجوعين بهذا الكتاب ويجمع لنا
المثوبات وان لا ينزع منا ما وهبه لنا ومن به علينا من الخيرات وان
لا يجعل شيئا من ذلك فتنة لنا وان يعيدنا من كل المخالفات انه
سميع الدعوات جزيل العظمت اعتصمت بالله توكلت على الله ما شاء الله

dico: **Bochâri** et **Moslim**, auctores librorum **Veritatum**; commemorat eos in **Concinno**, in capite de divisione quintae partis praedae; neque eorum mentio fit in **Concinno** nisi hic; et commemorat in **Summa Bochârium** in explicatione precatationis, ubi de lectione formulae in nomine Dei misericordis, miseratoris; non fit ejus mentio in duobus his libris, nisi duobus his locis, saepe autem occurrit eorum mentio in **Horto**. **Abu David**, commemorat eum in **Concinno**, in fine capituli de elemosyna post jejunii solutionem, et de divisione quintae partis praedae et saepe alias; sed ejus mentio non fit in ceteris libris, excepto **Horto**, in quo saepe occurrit. **Abjâd Ben Hammâl**, Comes, ejus mentio non fit in his sex libris, nisi in suscitatione mortuorum ex **Concinno**; et **Nagâschi** in capite de funeribus; et his similia. — Quum vero occurrit nomen duobus locis, sub duobus vocabulis, quae differre videntur, et tamen non differunt, vel vice versa, expono hoc et c. c. dico: **Abu Scharih el-Chozâi** in **Concinno** in capite de necessitate talionis, hic est **Abu Scharih el-Ka'abi**, commemoratus in capite de solutione talionis, deinde in capite de condonatione talionis. **'Abdolla Ben Zaid Ansâri**, commemoratus in **Concinno** in explicatione lotionis saecrae et precatationis in haurienda aqua et in initio capituli de dubio divortii, hic unus idemque est et diversus ab **'Abdolla Ben Zaid**, commemorato in capite promulgationis praecum ex **Concinno** et **Summa**; et differunt ambo in his. — Et cupio his omnibus dilucidiorum et faciliorem reddere cognitionem quaerentibus, in spe gratiae Domini mundorum. Profecto verum est, quod Legatus Dei, propitius sit ei Deus et favens! dixit: Per Deum! in adjuvando famulo quantopere famulus adjuvat alterum! Et commemorabo, juvante Deo, qui exaltetur! in fine interpretationis ejusque singuli jurisconsultorum nostrorum quaestiones alienas ab eo, sive ejus sententia sit praeponderans, sive praeponderata; et adjiciam, utrum ejus sententia sit praeponderans, an praeponderata; et maxima ejus pars est

مثلا البخاري ومسلم صاحبنا الصَّحَّاحَيْنِ ذكرهما في المَهْدَبِ في باب قسم
الجس ولا ذكر لهما في المَهْدَبِ اَلَّا هُنَا وَذَكَرَ فِي الْوَسِيطِ الْبُخَارِيَّ فِي صِفَةِ
الصلوة في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم لا ذكر له في هذين اَلْكِتَابَيْنِ اَلَّا فِي
هذين الموضعين وتكرر ذكرهما في الرِّضَّة * وابو داود ذكره في المَهْدَبِ في آخر
تركاة الغطر وفي قسم الجس نحسب ولا ذكر له في باقي الكتب اَلَّا الرِّوَضَةَ فَتَكَرَّرَ
فيها * وابيض بين جمال الصَّحَابِيِّ لا ذكر له في هذه الكتب السَّتَّةِ اَلَّا فِي
اِحْبَابِ الْمَوَاتِ مِنَ الْمَهْدَبِ وَالنَّجَاشِيِّ فِي الْجَنَائِزِ وَاشْبَاهِ هَذَا * واذا تكرر الاسم
في موضعين بلغظتين بوجهان الاختلاف وابس بختلغان او عكسه بئنته
فقلت مثلا ابو شريح الخزاعي في المَهْدَبِ في باب ما يجب به القصاص هو
ابو شريح الكعبي المذكور في استيفاء القصاص ثم في باب العفو عن
القصاص * وعبد الله بن زهد الانصاري المذكور في المَهْدَبِ في صفة
الوضوء وصلوة الاستسقاء واول باب الشك في الطلاق هو واحد وهو غير
عبد الله بن زهد المذكور في باب الاذان من المَهْدَبِ والوسيط والفرق
بينهما من كذا وكذا * وسردي بهذا كذَّه التَّبْسِيرِ وَالِابْضَاحِ لِلطَّلَبِيِّ
رجاء رضا رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَدْ صَحَّحَ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ * واذا ذكر ان شاء الله في آخر ترجمة كل
واحد من فقهاء اصحابنا مسأله غريبة عنه سواء كان قوله فيها راجعا
او مرجوحا وابين ان قوله راجح او مرجوح واكثر ذلك من المرجوح * والمقصود

regionibus definitionibus, quae sequuntur. Eodem pertinet menstruatio, quacum cohaerent sententiae sequentes; et omnes hae sententiae cohaerent cum puerpera, exceptis his; et omnia pecora mortua impura, exceptis his quaestionibus. Et similia exempla sunt innumerabilia, quae invenies, juvante Deo, qui exaltetur! locis suis. — Eodem modo clare exponam, juvante Deo, qui exaltetur! explicationes locorum, eorumque fines et pronunciationem, quae non credo te inventurum esse collecta alio loco, nisi magno labore, si unquam inveneris. Explicabo quoque, quid obscurum est, ut Dul-Holaifa, nomen loci, ubi conveniunt incolae Medinae et principes. Quatuor nomina ei similia sunt in scriptura; et Haġr commemoratum in quaestione vocis قلتجى est idem, cujus mentio fit in capite de Tributo; et similia his multa.

Jam de nominibus componam, juvante Deo, qui exaltetur! certissimum, quod invenies, et optimum pretiosissimi et praestantissimi ex historiis virorum, qui ea gesserunt; et exponam de iis secundum summam veritatem et perfectissimam evidentiam. Deinde ingrediar in hoc libro, juvante Deo, qui exaltetur! viam maxime approbatam optinis libris. Nomina nempe et vocabula, quae saepissime commemorantur, aut loca cognita plerumque sine relatione loci, quo occurrunt, exponam. Quorum vero occultus est locus studiosis et aliis, eorum locum indicabo. Dicam igitur exempli causa: Dicit auctor in Concinnò, in capite illo, aut in initio ejus, aut in primis partibus, aut in fine, aut in medio. Verbi causa Korâr, commemorat eum in Concinnò in capite de salutatione, in sectione de salutatione, sub voce انبهة; cum Damma literae ك et ر sine Teschdid; usque ad finem explicationis ejus. Hortus Chach, commemorat eum in Libro itinerum. Bozâcha, commemorat eum in interfectione el-Mortaddi; et similia. — Pari modo nomina personarum, si persona saepe occurrit, ut Mazâni et Ibn Seharîh, non relego ad locum; sin autem non iterata est, vel duobus tantum, vel tribus locis occurrit, ablego ad ejus locum et e. c.

حكما* ومن ذلك المحض يتعلّف به احكام وفي كذا وكذا* وتلك الاحكام
كلها يتعلّف باللفظين الا كذا وكذا* والمبتهت كلها نجسة الا
كذا وكذا مسئلة واشباه هذه الامثلة غير منحصرة في وستراها ان شاء
الله تعالى في مواضعها. وكذلك اوضح ان شاء الله تعالى من بيان المواضع
رحدورها وتبويبها ما لا اظنك تجد مجموعها في غير هذا الموضوع الا يتعب ان
وجدته* وانبه علي ما اشتبه منها كذي الحليفة مبعثات اهل المدينة
ونقوبه اربعة مواضع تشبهه في الخطا وهجر المذكورة في مسئلة القلتين في
هجر المذكورة في باب الجربة واشباه ذلك كثيرة. واما الاسماء فهي ان شاء الله
تعالى اتقن ما تجده واجعه لللفظين وعيون اخبار اصحابها. نأحققها
اكمل تحقيقت وابلغ اوضح* ثم اسلك في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى طريقة
مستحسنّة من مستجدات التصنيف. وفي انما كان فيه من الاسماء
والالفاظ متكررا كثيرا او معروفا مواضع شرحته من غير بيان موضعي غالبا*
وما كان يخفي موضعي علي بعض المتفقيين وشبهه بهنت موضعي. فانول مثلا قوله في
المهذب في باب كذا او في اوله او اربله او اواخره او اثنائه مثاله اكرام ذكره في
المهذب في باب السلم في فصل السلم في الاذنة وهو بضم الكان وخفيف السراء الي
آخر شرحه وروضة خاخ ذكرها في كتاب السير وبراخنة ذكره في قتل المرتد
واسباه ذلك* وكذا لعله الاغصان ان كان الشخص متكررا كالعربي وابس شرح لا
اضيف الي موضع وان لم يكن متكررا او تكرر في موضعين او ثلثة بهنت موضعي ناقول

allegando eos omnes suis locis, aliosque hic non memoratos; quod mox videbis et laetum accipiet oculus tuus, juvante Deo, qui exaltetur!

Spero autem a benignitate Dei, qui exaltetur! in hoc libro contentam fore nominum et vocabulorum et definitionum universalium et sententiarum praestantium copiam magnam, qua usus afferatur explanationi Korani et traditionis, omnibusque libris scriptis. Neque enim contentus sum effrendo singulas vocum literas ac veram earum sententiam, quin commonefaciam simul multarum sententiarum enunciativaram et quaestionum propriarum evidentissimis demonstrationibus abbreviatis, juvante Deo, qui exaltetur! Et exponam in eo, juvante Deo, qui exaltetur! ex definitionibus vocum juridicialium, carumque sensu, quae difficilia sunt plane explicatu nisi conferenti in id singularem diligentiam; sicut accurata definitio vocum doni, muneris, beneficii, et quo differunt inter se; porro quod cohaeret cum vocabulis universalibus, ut dicimus: Summa et quid cohaeret cum ea sunt centum ferme sententiae hujus modi; et omnes hac sententiae cohaerent cum coitu mulieris, exceptis septem; et cohaerent maximam partem cum coitu viri et animalis; et omnes sententiae cohaerent cum occultatione penis observandam famam; et inter singulas discrimen est, quod commemorabo loco suo, juvante Deo, qui exaltetur! Huc spectat quoque definitio violentiarum, quae sunt hujus modi; et excedit vestigium facti nisi in triginta ferme quaestionibus, quae sunt hujus modi. Porro huc spectat sacrum territorium Meccae, cujus fines ad omnia latera sunt hujus modi; et hoc differt ab aliis

وكذا غيرها مما لم اذكره مما ستراه وتقرّ به عينك ان شاء
الله تعالى ۞

وأهـجوا من فضل الله تعالى ان هذا الكتاب يجتمع فيه من الاسماء
واللغات والضوابط والكليات والمعاني المستجدات جهل مستكثرات ينتفع
بها في تفسير القرآن والحديث وجمع الكتب المصنفات ۞ تأتي لا اقتصر
فيه على ضبط الالفاظ وحققتها بل أنبأ مع ذلك على كثير من المعاني
اللفظية والمسائل الحقيقية بارضح العبارات المختصرات ان شاء الله
تعالى ۞ واضبط فيه ان شاء الله تعالى من حدود الالفاظ الفقهية وجامعها
ما يصعب تحقيقه الا على النادر من اهل العنابات كضبط حقيقة
الهبة والهدية والصدقة والفرق بينها * وما يتعلّق بالالفاظ الجامعة
كقولنا الجاع وما يتعلّق به نحو مأبة حكم كذا وكذا وتلك الاحكام
كلها يتعلّق بالوطء في دبر المرأة الا سبعة احكام ويتعلّق مغلّمها
بالوطئي في دبر الرجل ووطء البهيمة * وان الاحكام كلها يتعلّق بتغيب
الحشفة من سليم الذكر وفي مقطوعها تفصيل نذكره في موضعه
ان شاء الله تعالى ۞ ومن ذلك حقيقة الاكراه كذا وكذا ويسقط اثر
الفعل الا في نحو ثلثين مسئلة وفي كذا وكذا * ومن ذلك حرم مكة
حده من كل جهة كذا وكذا ويخالف غيره من البلاد في كذا وكذا

et *Collectione Ibn Doraid*, et *Summa Ibn Fâres et Integritate el-Gaularii*, aliisque libris de lingua celebrioribus; item ex scriptis de *Traditionum vocabulis rarioribus*, *Abi Obaida*, ejusque *Domini Abi Obaid*, *Ibn Kotaiba*, *el-Cha'ttâbii* et *Herateusis*; porro ex *Corani Commentariis*, ut ex *Amplio el-Wâhedii*, et libro *Gemmarum el-Mo'tazelii*, aliisque scholiis verborum explicationem continentibus; tum ex libris, qui aliquam linguae partem separatim spectant, ut *Inusitata scribentis oratione Abi Obaid el-Kâsem Ben Selâm* et *Sermonis emendatione Ibn es-Sekkit*, et *Scribae institutione Ibn Kotaiba*, ejusque *commentariis*; nec non libro *Florentis Ibn el-Anbâri* et scholiis in librum de *Eloquentia*. Tum nostra derivavimus ex scriptis de *falsa vulgi pronuntiatione*, quorum ab antiquis recentioribusque compositorum et copia magna est et *celebritas*; item ex *Traditionum interpretationibus*, ut ex *Ratione cognoscendarum legum ore acceptarum auctore el-Cha'ttâbio*, in *Commentario ad Leges Abi David*, ejusque *Signis*, in *Commentario el-Bochârîi*, et *Explicatione Ibn 'Abd el-Barr*, in *Commentario Expanso*; et *commentario in Bochârium*, auctore *Ibn Ba'ttâl*, et in *Termeditam*, auctore *Ibn el-Arabi*, et in *Moslem*, auctore *Judice 'Ijâ'd*, ejusdemque *Ortu*, et *Ortu luminum auctore Ibn Korkul*, aliisque; et ex libris *Jurisprudentiae* et *doctrinarum fundamentalium et Theologiae Scholasticae*, ut *explicatione definitionis verae vocum intellectus*, *Prophetae*, *miraculi*, *prodigii*, *praestigii*, *largitionis*, *auxilii divini*, *frustrationis*, *sermonis*, *existentiae*, *terminorum vitae*, *decretorum Dei*, *rationis cognoscendi*, *abstersionis*, *principii* etc. quae non inveniuntur certo explorata, nisi in libris de *elementis doctrinae*. Denique usurpavi *Libros Geographicos*, ut *opus Abi Obaid el-Bekri* et *Etymologicum Abul-Farâgi el-Hamadâni*, et librum de *nomibus locorum synonymis et diversis*, auctore *el-Hâzemi*, aliosque. Sed infra videbis, juvante Deo, qui exaltetur! quid transferam ex his libris

لابن دريد والجل لابن ناهس ومحاح الجوهرى وغيرها من الكتب المشهورة في اللغة * ومن كتب غريب الحديث كغريب ابي عبيدة وصاحبه ابي عبيد وابن قتيبة والخطابي والهرودي * ومن كتب تفسر القرآن كالبسبب الواحدى وكتاب الرمانى للمعتزى وغيرها من التفسير الجامعة لللغات * ومن الكتب المصنفة في انواع من مفردات اللغة كغريب المصنف لابي عبيد القاسم بن سلام واصلاح المنطق لابن السكيت وادب الكاتب لابن قتيبة وشروحه وكتاب الزاهر لابن الانبارى وشرح الفصح * ومن الكتب المصنفة في احسن العوام للمتقدمين والمتأخرين وفي كثيرة مشهورة * ومن شروح الحديث كمعالم السنن للخطابي في شرح سنن ابي نارد والاعلام له في شرح البخارى والتمهيد لابن عبد البر في شرح الموطأ وشرح البخارى لابن بطال وشرح الترمذى لابن العرقى وشرح مسلم للقاضي عياض والمشارك له ومطالع الانوار لابن قرقول وغيرها * ومن كتب الفقه والاصول والكلام كبيان حقيقة العقل والنبي والمجزة والكرامة والسحر والرزق والتوفيق والخذلان والكلام والوجود والاحوال والاعدام والمعالم والمصح والهداء وغير ذلك مما لا يوجد متقنا الا في كتب الاصول والكلام * ومن كتب الاماكن ككتاب ابي عبيد البكري والاشتقاق لابي الفرج الهمداني والموتلف والمختلف في الاماكن للحارمى وغيرها * وسائر ان شاء الله تعالى ما انتله من هذه الكتب مضائاً اليها كلها في مواطنها

Ben Hannât, qui nomine Sanâni notus est; e Classibus majoribus et minoribus Mohammedis Ben Sa'ad, scribae el-Wâkedii, qui fide dignus est, licet Doctoris ejus el-Wâkedii infirmum sit testimonium; item ex libro de veris falsisque traditionum testimoniis dijudicandis, auctore Abi Hâtem et ex luculentis auctoribus Ibn Abi Hâtem Ben Hibân (cum Resre literae Ha). Porro ex Chronico Nisahurensi auctore el-Hâkim Abu 'Abdolla, et Chronico Bagdadensi auctore el-Cha'tib, et Chronico Hamadanensi et Damasceno auctore el-Hâfi't Abul-Kasem 'Asâker, aliisque Chronicis majoribus. Praeterea ex libris nominum Comitum, ut ex Universitate Ibn 'Abd el-Barr et libro Ben Mandehi, Abi No'aïm, Abi Musa, Ibn el-Athir, aliorumque; et ex libris expeditionum et itinerum, et ex libris de nominibus recte scribendis, ut nominibus synonymis et diversis auctoribus ed-Dâroka'tnio, 'Abd el-Gina Ben Sa'id, el-Cha'tib Bagdadensi, Ibn Mâkula, aliisque. Item ex libris Classium Jurisconsultorum, ut classibus Abi 'Âçem el-'Ibbâdi, Doctorum Abi Ishak et Abi 'Amr Ben eç-Calâh. Haec sunt fragmenta, quae ordinare et disponere institui; sunt autem quantivis pretii, ita ut nihil unquam scriptum sit, quod cum iis comparari possit, aut ad eorum praestantiam prope accedat, illiusque operis (quod ignorasse Schafe'itae turpe foret), in Jurisconsultorum historia cognoscenda, vicem suppleat. Praeterea in meam scripitionem congressi praecipua quaeque momenta ex libris Traditionum, nec non Jurisprudentiae, illisque, qui de Theologiae Jurisque fundamentis agunt etc. Inter Genealogicos libros usus sum Originibus Abi Sa'ad es-Samâni, aliorumque; inter obscurarum quaestionum libros, operibus el-Cha'tib Bagdadensis et Ibn Baschkual, aliorumque. — Quod ad vocabulorum interpretationem attinet, eam maximam partem hausi ex Concinnitate linguae el-Azharii et Interpretatione verborum compendii el-Mazanii, et Munimento linguae et Collectione el-Kazâzi,

كتاريخ البخاري وابن ابي خيثمة وخليفة بن حنات المعروف بسنان والطبقات الكبرى والطبقات الصغرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي وهو ثقة وان كان شيخه الواقدي ضعيفاً * ومن الجرح والتعديل لابي حاتم والثقات لابن ابي حاتم بن حبان بكسر الحاء وتاريخ نيسابور للحاكم ابي عبد الله وتاريخ بغداد للخطيب وتاريخ همدان وتاريخ دمشق للحافظ ابي القاسم بن عساكر وغيرها من كتب التواريخ الكبار * ومن كتب اسماة الصحابة كاستيعاب لابن عبد البر وكتاب بن منده واي نعيم واي موسي وابن الاثير وغيرها * ومن كتب المغاري والسير * ومن كتب ضبط الاماء المولف والمختلف للدارقطني وعبد الغني بن سعيد والخطيب البغدادي وابن مأكولا وغيرها * ومن كتب طبقات الفقهاء كطبقات ابي عاصم العبادي وطبقات الشيخ ابي ابيح وطبقات الشيخ ابي عمرو بن الصلاح وفي مقطعات وقد شرعت في تهذيبها وترتيبها وهو نغيس لم يصنف مثله ولا قرئ منه ولا يغني عنه في معرفة الفقهاء غيره ويقعج بالمنتسب الي مذهب الشافعي جهله * واجمع فيه عربوناً من روايات كتب الحديث وكتب الفقه وكتب الاصول وغيرها * ومن الانساب كالانساب لابي سعد السمعاني وغيرها ومن كتب المبهمات ككتاب الخطيب البغدادي وابن بشكولا وغيرها * واما اللغات فاعظمها من تهذيب اللغة للانباري وكتاب شرح الفاظ مختصر المنزي والمعكم في اللغة وجامع القرائن والجمهرة

tamen commemoravi quendam litteram additam in capite quodam secundum prononciationem (et notavi, si littera quaedam est addita), quam jam commemoraveram loco suo secundum litteras radicales. Hoc autem faciam, quia hunc librum saepe evolvunt studiosi, quibus etymologia ignota est; interdum etiam vocabulum alio loco evolvunt, quam secundum litteras radicales, opinantes omnes litteras ad radicem pertinere; neque ibi id inveniant, neque alia de eo opinio iis nota est. Sed facilius reddere volui eorum studium; nam optimi libri sunt ii, quorum facilis est usus et quos quisque sine labore cognitos habet. Commemorabo etiam, juvante Deo, qui exaltetur! in fine cujusque litterae nomen locorum, quorum prima littera ad hanc sectionem pertinet; et notabo litteram adjectam ex consuetudine virorum doctorum in nominibus personarum et locorum, quia eorum pauca sunt, eorumque commemoratione sub littera prima facilius ea invenire possunt studiosi. Effera praeterea, juvante Deo, qui exaltetur! singulas nominum personarum et locutionum et locorum litteras omnes, ubi necesse est, insigendo eas vocalibus et omisso vel adjecto Teschdido; et hanc litteram esse ϵ sine puncto, vel ϵ puncto diacritico instructam, et similia. Quae omnia transferam vere, juvante Deo, qui exaltetur! et concinne ex opinionibus certis et scriptis virorum, quibus in his rebus fides haberi potest. Nunc in rebus quae cognitae sunt, plerumque non laudabo auctores, ob multitudinem eorum, neque urgente necessitate; in alienis autem adjeci auctores et relatores earum.

Nomina et demonstrationem conditionum eorum, qui ea gerunt, transtuli ex libris Imamorum, traditionis conservatorum, virorum in ea principum et illustrium dignitatis eminentia, quibusque ab omnibus doctis fides haberi solet, ut Chronico Bochârîi et Ibn Abi Chaithmae et Chalifae

الحروف الاصليّة * ولا انظر الي الزوايد * وربما ذكرت بعض الزوايد في باب علي لفظه ونجبت علي أن الحرف الغلابي ترايد وقد ذكرت في موضعه الاصلي * وانما افعل هذا لأن هذا الكتاب قد بطالعه بعض المتفقهين ممن لا يعرف التصريف فربما طالع اللفظة في غير محلها الاصلي متوهماً أن حروفها كلها اصول ولا يجدها هناك ولا يعلم لها مظنة اخرى * فارت التسهيل عليهم * فان خبر المصنغات ما سهلت منفعته وتمكن منها كل احده * واذكر ان شاء الله تعالى في آخر كل حرف اسم المواضع التي اولها من تلك الحروف واعتبر الحرف الزايد علي عادة العلماء في اسماء الأشخاص والاماكن لأنها قليلة وذكرها في حرفها الاصل اقرب الي وصول المتفقهين اليه * واضبط ان شاء الله تعالى من اسماء الأشخاص واللغات والمواضع كل ما يحتاج الي ضبط بتقبيده بالحركات والتخفيف والتشديد وأن هذا الحرف بالعرب الممهلة او العين المعجمة وما اشبهه * وانقل كل ذلك صحتاً ان شاء الله تعالى مهذباً من مظانته المعتمدة وكتب اهل التحقيق فيه * فما كان مشهوراً لا اضيفه غالباً الي تأليفهم لكثرتهم وعدم الحاجة اليه * وما كان غريباً اضفته الي تابه أو ناقله *

وما كان من الاسماء وبيان احوال اصحابها نقلته من كتب الأئمة الحنفاذ الاعلام المشهورين بلا ماساة في ذلك والمعتمدين عند جميع العلماء

texam per ceteras literas. Sic Alja'd Ben Ġemäl ante Obi Ben Ra'ab ponam; etsi enim ambo incipiunt ab Elif, Be et Je, quarta tamen litera vocis ابيض est ض et vocis ابي Je alterum. Sin autem duo nomina omnibus literis concinunt, sicut Ibrahim et Ibrahim, disposui ea secundum nomina patrum. Ita ponam Ibrahim Ben Azar ante Ibrahim Ben Ibrahim, et Ibrahim Ben Ibrahim ante Ibrahim Ben Ahmed, et Ibrahim Ben Ahmed ante Ibrahim Ben Adhem. Et si nomina duorum hominum eorumque patrum sunt eadem, sicut Ibrahim Ben Ahmed et Ibrahim Ben Ahmed, disposui ea secundum avos. Ita ponam Ibrahim Ben Ahmed Ben Ibrahim ante Ibrahim Ben Ahmed Ben Ismael. Si avorum etiam nomina eadem sunt, disposui ea secundum abavos, deinde secundum atavos in hunc modum per omnes literas usque ad literam Je. Idem faciam in agnominibus gentilitiis, cognominibus et tribuum nominibus aliisque. Hac ratione ponam articulum Abi Ibrahim ante illum Abi Ishak et articulum el-Anmä'ti ante el-Auzä'i et el-Aċm'ai ante el-A'mesch et Beni Tamim ante Beni Hanifa; et eodem modo in nominibus cum Ibn compositis, Ibn Omm-Mektum ante Ibn el-Katiba; et similiter in nominibus cum Aehu, cetera; et similiter nomina Maritorum et Uxorum; et pariter Behram Ben Hakim a patre et avo ante 'Talha Ben Moċarref a patre et avo; et pariter 'Talha Ben Moċarref a patre et avo ante 'Amr Ben Scho'aib a patre et avo. Quod attinet ad res incognitas et mendosas, commemorabo eas secundum ordinem, quo accidunt in his libris. Eodem modo tractabo etiam partem de Mulieribus, juvante Deo, qui axaltetur! — Jam quod attinet ad vocabula, ordinabo ea aequae secundum literas alphabeti in modum praecedentem, respectu habito literae primae et secundae et ceterarum; et quod inde primum est, primum etiam locum obtinet, observatis literis radicalibus et neglectis adjectis. Interdum

واعترى ذلك في باقي الحروف * ناقدم ابيض بن جبال علي أبي بن كعب *
 لانهما وان اشتركا في الهمزة والباء والها فرباع ابيض ضاد * ورباع أبي با *
 أخرى * فان اشتركا اثنان في جميع الحروف كابراهيم وابراهيم قدمت بالاباء * ناقدم
 ابراهيم بن آثر علي ابراهيم بن ابراهيم * وابراهيم بن ابراهيم علي ابراهيم
 بن احمد * وابراهيم بن احمد علي ابراهيم بن آدهم * فان استويا في اسمهما
 واحم آبوتيهما كابراهيم بن احمد وابراهيم بن احمد قدمت بالجدة * ناقدم
 ابراهيم بن احمد بن ابراهيم علي ابراهيم بن احمد بن اسمعيل * فان استويا
 في الجدة أيضا اعتبرت آبا الجد * ثم جدته علي هذا المثال في جميع الحروف
 الي حرف الباء * وكذلك اصنع في الكتي والانساب واللقاب والقبائل
 ونحوها * ناقدم ترجمة ابي ابراهيم علي ترجمة ابي احمد و ترجمة الأنماطي
 علي الأوزاعي والاصمعي علي الأعمش * وبني عيم علي بني حنيفة * وكذلك في
 الأبناء ابن أم مكتوم علي ابن الكتبية * وكذا الاخوة وغيرهم * وكذا
 الزوج والزوجة وكذا بهرام بن حكيم عن ابيه عن جدته علي طلحة بن
 مصرن عن ابيه عن جدته * وكذا طلحة بن مصرن عن ابيه عن جدته
 علي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدته * وأما المبهمات والاعقاب فذكرها
 علي ترتيب وقوعها في هذه الكتب وان فعل مثل جميع ذلك في النساء ان
 شاء الله تعالى * وأما اللغات فارتبها أيضا علي حروف المعجم علي حسب ما
 سبق من مراعاة الحرف الأول والثاني وما بعدها مقدما الأول نالولا * معتبرا

et Koraisch, Chuzà'a et Chath'am; quarta de quibus dicitur: filius cuiusdam viri aut foeminae, aut frater, aut soror, aut patruus aut avunculus ejus, ut Ibn Scho'ba, Ibn Abi Laila, Ibn Abi Dib, Ibn Ġoraif̄ et Ibn Omam Mektam, Ibn el-Katiba et duo fratres, 'Ajesehae, gratam habeat eam Deus! et duae sorores ejus et Patruus 'Abbādi Ben Tammin et similia; quinta de illis, qui a patre et avo traditionem accepisse memorantur; sexta: Maritus foeminae et Uxor viri cuiusdam; septima de nominibus incertis, ut Vir quidam, Scheich, Vir quidam sapiens etc.; octava de erroribus, qui occurrunt in nominibus propriis et gentilitiis. — Pars posterior, de Mulieribus, septem capita continet, secundum dispositionem commemoratam in parte de Viris, omisso capite quinto; non enim in his libris mentio fit foeminae, quae a matre et avia, aut a patre et avo traditionem accepisset; cetera autem capita inveniuntur et videbis omnia, quae commemoravi, loco suo clare aposita, juvante Deo, qui exaltetur! Et ordine disponam haec omnia secundum literas alphabeti; at tamen incipiam ab iis, quibus nomen est Mohammed, sicut jam fecit Abu 'Abdolla Bocharensis et viri docti post eum, gratos habeat eos Deus! ob honorem nominis Prophetiae, propitius sit ei Deus et favens! Deinde redibo ad ordinem literarum et incipiam a litera Elif, quam sequuntur Be, Te, The, Ġim, usque ad postremam. Et innotor in litera prima nominis et dico: Litera Elif. Deinde commemorabo sub ea nomina omnium, quorum nomen incipit ab Elif, et inter haec, cui alterum Elif additur proxime, hoc primum est. E. g. ponam Ādam ante Ibrahim; quamquam enim ambo incipiunt ab Elif, tamen Elif vocis آدم sequitur alterum Elif, sed Elif vocis إبراهيم sequitur Be; et Elif antecedit Be. Eodem modo in ceteris literis nominis, et hoc diligenter per-

والاصم وكثير بش وخراعة وخشم * الرابع ما قبل فبه ابن فلان او بن
فلانة او اخوه او اخته او عمه او خاله كاي شعبة وابن ابي ليلي وابن ابي ذيب وابن
جريح وكابن أم مكتوم وابن الكتيبة وكاخوي عابشة رضي الله عنها
واختبها وعم عباد بن تميم ونظايرها * الخامس ما قبل فبه عن
فلان عن ابيه عن جده * السادس نروج فلانة ونروجة فلان * السابع
المبهمات كرجل وشيخ وبعض العلماء ونحوه * الثامن ما وقع من الاسباب
الانساب غلطاً * وأما الضرب الثاني وهو النساء فهو سبعة انواع علي
الترتيب المذكور في الرجال * ويسقط منهن النوع الخامس * فليس
في هذه الكتب قلانة عن أمها عن جدتها او عن ابيها عن جدها
وبقي الانواع موجودة وستري كل ما ذكرته في موضعه موضحاً ان شاء الله
تعالى * وارتيب جميع ذلك علي حروف المعجم لكن ابداً فبه بمن اسمه
محمد كما فعل ابو عبد الله البخاري والعلماء بعده رضي الله عنهم
لشرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم * ثم اعود الي ترتيب الحروف نابداً
بحرف الهمزة ثم الباء ثم التاء ثم القاء ثم الجيم الي آخرها * واعتمد
في الاسم الحرف الأول ناقول حرف الهمزة * ثم اذكر فبه اسم كل من في اسمه
الف مقدماً * منهم من بعد الالف فبه الأول فالأول * فاقدم آدم علي ابراهيم
لانهما اشتراكاً في أن أولهما حمزة لكن بعد حمزة آدم حمزة أخري وبعد حمزة
ابراهيم باء والهمزة مقدمة علي الباء * ثم كذلك في باقي حروف الاسم *

Nam hi sex libri continent, quid opus est locutionum; et adjiciam iis supplementa necessaria, quae non inveniuntur in iis, ut communis utilitas ex eo capiatur, juvante Deo, qui exaltetur! vocabula Arabica et barbara et Arabizantia, et formulas forenses et locutiones juridicas; et adjungam his dicendi formulis quae nomina Virorum et Mulierum et Angelorum et Daemonum, aliaque, quorum mentio fit in his libris ex traditione et alio modo, occurrunt in his libris; num quis Moslemus fuerit, an alienus, num pius, an impius. Elegi autem haec scripta ad componendum librum, quia quinque priora eorum divulgata sunt inter viros doctos nostros, qui ea maxime evolvunt; et per omnes urbes divulgata sunt apud proceres et tirones in omnibus regionibus, non exstante libro, qui omne utile amplecteretur. Jam quidem composuerunt nonnulli viri libros de singulis partibus, sed non perfectos et in plurimis eorum sunt menda et errores, quos neglexisse turpe est iterum iteramque terenti eos. Et spero a benignitate Dei, hunc librum, si perficiatur, medelam allaturum esse animis sinceris et expleturum oculos sanos et integros.

Divisi librum in duas partes: prior de nominibus, posterior de locutionibus. Nominum autem sunt duo genera: primum de Viris, alterum de Mulieribus; quorum primo sunt octo species: Prima de nominibus veris, e. c. Mohammed, Ibrahim, Ishak, Zaid, 'Amr et similia; secunda de agnominibus honorificis (i. e. ab Abu ineipientibus), e. c. Abul-Kasem, Abu Bekr, Abu Hafç et similia; tertia de nominibus gentilitiis, cognominibus, et tribus ut Johri, Auza'i, Buvaiti, Mazini et Coecus, Sardus

تجمع ما يحتاج إليه من اللغات وأضُم الي ما فيها جُلا مما يحتاج إليه
 تماليس فيها ليعم الإنتفاع به إن شاء الله تعالى اللغات العربية والحجبة
 والمعربة والاصطلاحات الشرعية والالفاظ الفقهية ۞ وأضُم الي اللغات
 ما في هذه الكتب من أسماء الرجال والنساء والملائكة والجن وغيرهم
 ممن له ذكر في هذه الكتب برواية وغيرها مسلماً كان أو كافراً برأ كان
 أو ناجراً ۞ وخصصت هذه الكتب بالتصنيف لأن الحجة الأولى منها
 مشهورة بين اصحابنا يتداولونها اكثر تداول وفي كل الامصار مشهورة
 للخواص والمبتدئين في كل الاقطار مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها ۞
 وقد صنف جماعة في افرادها مصنغات غير مستونات وفي كثير منها
 انكار وتصنيف فترجح بمنصب لاعادة او التدريس اجمال ذلك ۞
 وارجوا من فضل الله الكريم ان تم هذا الكتاب ان يتشفي القلوب
 الصائفات وعملاء الاعين الصحاحات الكاملات ۞

وارتب الكتاب علي تسمين الآدب في الاسماء الثاني في اللغات ۞ تأما
 الاسماء فصرهان الأول في الذكور والثاني في الاناث * تأما الاول فثمانية انواع
 الأول في الاسماء الصححة كمحمد وابراهيم واسماعيل واحمد وزيد وعمر
 وشبهها * الثاني في الكنا كابي القاسم واي بكر واي حفص ونظيرها *
 الثالث الانساب واللقاب والقبائل كالزهرى والوزائى والموبطى والمنزى والاعشى

juxta eloquentiam eorum inter tribus et domi, et peritiam linguae, memoriter ediscendi operâ. Attamen augere voluerunt cognitionem linguae, cujus status talis est, qualem commemoravimus, et dignitas, qualem supra diximus. Et Ibn 'Abbâs, gratum habeat eum Deus! et 'Ajescha, alique, gratos habeat eos Deus! memoria tenere carmina et dicta, quaecunque nota et divulgata fuerunt. Quod attinet ad rationem, qua 'Omar Ben el-Chattâb, ejusque filius, gratos habeat eos Deus! castigabant filios suos ob negligentiam eorum in ediscendis Arabicis, hoc translatum, evidens et manifestum est. Quod autem translatum est ab asseclis eorum in his rebus, copiosius est, quam quod numero comprehendi possit, et divulgatus, quam quod commemoretur. Nunc quod attinet ad laudem Imâmi nostri, Schafe'ji, misereatur ejus Deus! ejusque instigationem ad studium linguae Arabicae in initio Tractatus sui, his probatur altitudo dignitatis et magnitudo majestatis ejus, neque opus est prolixam facere orationem de instigatione ad eam. Conveniunt quoque viri docti in commendatione ejus, quin imo praescribunt ejus studium Mustio, Imâmo maximo et Kâdio ob munera recte administranda, et consentiunt, eam discere et docere referendum esse ad officia, quibus optime mereant homines. Itaque quum ejus conditio talis sit, qualem commemoravi, ejusque magnitudo in eo, quem descripsi, statu, malui sequi viam virorum doctorum, si quid forte praestantiae ei asferre possem et perducere officium quo bono meream et adjuvare in discenda lingua, si quis studiosorum in eam inclinatus esset. Componam igitur, juvante Deo excelso, clemente, misericorde, aeterno, beneficiente, praestante et benigno, librum de nominibus, quae inveniuntur in libro abbreviato *Abi Ibrahim Mazinitae*, in *Concinno et Commonitione et Summa et Compendio et Horto*, hic est liber, quem abbreviavi ex commentario in *Compendium Imâmi Abil-Rasem Râfêitae*, misereatur ejus Deus!

ومعرفتهم باللغة اسْتَظْهَرَاهُ ۞ لكن ارادوا الاستِثْكَارَ من اللُّغَةِ الَّتِي
حَاتَهَا مَا ذَكَرْنَا وَحَلَّتْهَا مَا قَدَّمْنَا ۞ وكان ابن عباس رضي الله
عنه وعابشة وغيرهما رضي الله عنهم يحفظون من الأشعار واللغات ما هو
من المعريونات الشَّابِعَاتُ ۞ وأما ضرب عمر بن الخطاب وأبيهِ رضي الله عنهما
أولادها لتفريطهم في حفظ العربية فمن المنقولات الواحِجَاتِ الجَلِيَّةِ ۞
وأما المنقولُ عن التابعين من بَعْدِهِمْ في ذلك فهو أكثر من أن يُحْصَرَ
وَأَشْهَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ ۞ وأما ثناء إمامنا الشافعي رحمه الله وحُثُّه علي
تعلُّم العربية في أول رسالته فهو مقتضي منصبه وعِظَمُ جَلالَتِهِ
ولا حاجة الي الإطالَةِ في الحثِّ عَلَيَّهَا ۞ فالعلماءُ يُجْمِعُونَ علي الدِّعَاءِ
بِهَا بل شرطوها في المفتي والامام الاعظم والقاضي لصحة الِوَلَايَاتِ
وَاتَّفَقُوا علي أَنَّ تَعَلُّمَهَا وَتَعَلُّبَهَا مِنْ فُرُوضِ الْكَلَفَاتِ ۞ فَلَمَّا كَانَ
أَمْرُهَا مَا ذَكَرْتُمْ وَجَلالَتِهَا بِالْمَحْضَرِ الَّذِي وَصَفْتُمْ ارْتَدَّتْ إِنْ اسْلَكَ بَعْضُ
طُرُقِ أَهْلِهَا لَعَلَّ أَتَالَ بَعْضُ فَضْلِهَا وَأُودِيَ بَعْضُ ذِكْرِ مِنْ فَرِيضِ
الِكِفَايَةِ وَأُسَاعِدَ فِي مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ مِنْ لَمَّةٍ رَغْبَةً مِنْ أَهْلِ الْعِيَانَةِ ۞
ناجع إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْكَرِيمِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ ذُو الطُّوْلِ وَالإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ
وَالامْتِنَانِ كِتَابًا فِي الآلَةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي وَجَدْتُمْ فِي مَخْتَصَرِ ابْنِ اِبْرَاهِيمَ الْمَرْزِيِّ وَالْمَهْدَبِ
وَالْتَقْيَبِيِّ وَالْوَسْبِيَّ وَالْوَجِيئِيَّ وَالرِّضِيَّ وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي اخْتَصَرْتُمْ مِنْ
شرح الوجيز للامام ابْنِ الْقَسَمِ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ۞ فَإِنَّ هَذِهِ الْكُتُبُ السَّنَّةُ

Nomine Dei misericordis, miseratoris.

Laus Deo, creatori rerum factarum et conditori rerum conditarum et moderatori rerum exstantium et mutatori linguarum articularum, praeferenti linguam Arabicam ceteris linguis! qui demisit librum suum et misit Legatum suum et amatum, Mohammed, propitius sit ei Deus et favens! in ea; ut perficiatur ejus conditio et notificetur magnitudo status ejus et altitudo existimationis ejus! Laudibus celeberrime eum perfectissimis et summis, meritis et longe lateque diffusis! Et profiteor, non esse Deum nisi Alla benignum, excelsum, clementem, misericordem; et profiteor, Mohammed esse ejus Servum, Legatum, Amatum et Amicum, propitius sit ei Deus et favens, ceterisque prophetis, ejusque toti familiae et ceteris piis!

Jam vero lingua Arabica quoniam posita est in loco sublimi et statione alta, et in ea cognoscitur liber Domini mundorum et lex optimi priorum et posterorum et nobilissimi antecedentium et insequentium (pax Dei sit ei et ceteris prophetis et sequentibus eos benefaciendo usque ad diem judicii!): viri intelligentes et generosi et appetentes superiora incubuerunt in ejus studium et in confirmationem cognitionis ejus ediscendis carminibus Arabum, eorumque sermonibus et orationibus, aliisque eorum dictis. Exercabantur autem haec studia tempore Comitum, gratos habeat eos Deus!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله خالق المصنوعات وبارئ البريات ومدبر الكائنات ومُصرِّف اللسُنِ
 الناطِقَاتِ مفضِّل لغة العرب على سائر اللغات المنزِل كتابَه والرُّسُل رسوله وحبيبه
 محمداً صلَّى الله عليه وسلَّم بها تنويهاً لسانها وتعريفاً لعظم محلها وارتفاع مكانها *
 اجدده أبْلغ الحمدِ واكمله واكراه وأشمله وأشهد أن لا اله الا الله اللطيف
 الأكرم الرؤوف الرحيم * وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلَّى الله عليه
 وسلَّم وعلى سائر النبيِّين وآله كلِّ وسائر الصالحين *

أما بعدُ فإن لغة العرب لما كانت بالحدِّ الاعلى والمقام الأسمى وبها يُعرَض
 كتابُ ربِّ العالمين وسنةُ خيرِ الأولين والآخريين واكرمِ السابقين واللاحقين صلوات
 الله عليه وعلى سائر النبيِّين والتابعين لهم بإحسانِ الي يوم الدين اجتهد اولوا البصائر
 والانفس الراكباتِ والهمم المهذبة العاليات في الاعتناء بها والتمكُّن من اتقانها
 بحفظ اشعار العرب وحُطِّبِهم وتشرُّهم وعبر ذلك من أمرهم * وكان هذا
 الاعتناء في نثرمن الصحابة رضي الله عنهم مع فصاحتهم نسباً وداراً

هذا كتاب تهذيب الاسماء

Hic est liber concimitatis nominum.

mens a cl. Hamaker, qui in libro suo «Specimen Catalogi Codicum Mss. Orient. biblioth. academ. Lugduno Batavae» pag. 139 de Codice Abu Zacariae tractat. Diffuse et diligentissime ejus vitam exposuit, ita ut ad eum ablegare mihi liceat, quod etiam feci in loco, quem ille excerpsit, de quo vid. annot. ad pag. 12. Omnino autem mihi propositum non erat, uberiozem addere commentarium de nominibus virorum, eorumque libris, quorum mentio fit in hac sectione; nam si hoc inceptum meum probatur viris doctis et in bonam partem accipitur, operam dabo, ut modicis intervallis reliquas sectiones expleam, in quibus omnia fere nomina illa iterum longiore expositione occurrunt, ubi deinde, ut, quantum valeo, liber omnibus partibus expletus evadat, quae adjicienda esse videantur ex operibus vetustiorum et recentiorum scriptorum, adjiciam.

Versionem Latinam, etsi minus elegantem, tamen, quantum sine damno perspicuitatis fieri potuit, verbis Arabicis aptare studui. Annotationes longe plurimae varias lectiones et emendationes textus Arabici spectant; sed quanta sit difficultas in edendo libro ex unico Codice et quanta cautio adhibenda sit in emendationibus faciendis, ipsi non ignorant viri docti. Plures earum mecum communicavit cl. Ewald, ejus tanta in me erat liberalitas, ut praeterea consulenti mihi de locis difficilioribus libentissime exponeret; qua de cause me, quantas maximas animus meus capere possit, gratias ei agere, has literas testes esse velim.

Scriptum Göttingae d. XVI. Decemb. MDCCCXXXI.

signis passim adjectis, quod autem casu magis, quam ratione aliqua factum esse videtur. Attamen non sine mendis est, sed literarum puncta diacritica interdum false apposita, interdum plane ommissa sunt, et in altera voluminis parte integrae adeo desunt lineae; quas lacunas jam in eo Codice, ex quo descriptus est noster, fuisse dicit librarius, margini adscribens verba: كذا وجد ببافاً في النسخ sive: وجد في النسخ: كذا وجد ببافاً في النسخ. Desiderantur maxime in his lacunis virorum stemmata, quae nobis minoris momenti sunt, quam Arabibus vetustioribus. Magis autem dolendum est, quod hoc volumen non nisi priorem totius operis partem, qua de nominibus agit, continet, deficiente posteriore, qua de vocabulis et sententiis tractaverat auctor; nam in fine margini adscripta sunt haec verba: هنا تمّ القسم الثاني من: اسماء وتامد تمّ الجزء، اذول ولله الحمد والمئة. Hic finis est capituli alteri de nominibus, quo finito absoluta est pars prior. Sit Deo laus et gloria.

Praeterea neque libri titulus, neque auctoris nomen in ipso opere occurrit, sed pagina prima eandem fert inscriptionem, quam et ego primae paginae praetextui, integrum, quem in fronte libri apposui, titulum depro-

„hinc Zakharjae, cui lucem publicam aliquando non invidemus, literaturam arabicam maxima debere incrementa. Neminem autem fugit, quanto cum eruditorum applausu ex hoc claro et docto fonte hauserit Köhlerus, qui non tantum in commentariis de scriptoribus arabicis repertorio Fichhorniano insertis et in specimine emendationum in scriptores arabicos, sed etiam in observationibus in Elmacini historiam Saracenicam hunc Apollinem consuluisse pro gloria duxit. Adeatur Ev. Scheidii Orat. de fontibus literaturae Arabicae apertis in usum disciplinarum multo latius recludendis, Harderv. 1767. — Codex ipse charta laevigata est scriptus, quaevis pagina duabus columnis absolvitur, quibus columnis singulis linea rubro ex liquore conflata est superinducta. Sunt indicia, ex quibus auguror, ex bibliotheca Heilmanniana codicem in bibliothecam Köhleri migrasse.” — Contra hoc monendum est, quamvis paginam non duobus columnis, sed singula absolvi, et passim margini notulas esse adscriptas.

Viri, quorum vitas describit Abu Zacarja, maximam partem sunt Mohammedis Comites et Asseclae et Sectatores, quibus exceptis ex tempore insequenti nonnisi celeberrimum quemque memorat; quod potissimum interest inter cum et Ibu Chalicani, qui, illis omissis, eorum maxime vitam describendam sibi sumsit, qui eodem cum eo tempore vixerunt, ut apparet ex his praefationis verbis: „Nullum vero in hoc compendio commemoravi ex Soeis
 „Prophetac, quibus sit propitius Deus, neque etiam ex Tabiis, si excipias
 „paucos, quorum conditionem cognoscere multorum hominum interest. Simi-
 „liter quoque nullum nominavi Chalifam, contentus plurimis libris, qui hoc
 „argumentum tractant. Sed commemoravi plurimos illustres viros quos ipse
 „novi, et de illis quaedam enarravi; item alios, qui quidem mea aetate
 „vixerunt, quos tamen ipse non vidi, ut eorum historiam exhiberem iis, qui
 „post me venient.“ vid. B. F. Tydeman, conspectus operis Ibn Chalicani de vitis ill. vir. Lugd. Batav. 1809. pag. 111. — Exstat in bibliotheca nostra integrum operis Ibn Chalicani exemplar, a Lorsbachio e Codice Leidensi quinque voluminibus transscriptum. Ex hoc vitas nonnullorum virorum comparavi cum vitis Abu Zacarjae, unde inveni, utrumque de summa rerum plerumque dicere idem, de levioribus rebus modo hunc, modo illum uberius.

Nunc Codex noster, quem e relictis a Köhlero libris bibliotheca Gottingensis sibi acquisivit *), satis bene et emendate scriptus est, vocalium

*) Ecce quibus laudibus venditat hunc Codicem Catalogus librorum a J. B. Köhlero collectorum. Lubecae 1804. pag. 220: „Ketab Abu Zakharja in Fol. „major. — Arabice — Paginarum 451. conf. Catal. Lugd. p. 485. No. 1870. — „En! Lexicon illud historicum fama super aethera notum, quod qui frigidius „laudare posset, ad Getas merito et ad Garamantas mittendus esset. Gratia- „sima enim mente, quisquis orientalem colit literaturam, necum fatebitur,

P R A E F A T I O.

In discendis linguis Orientalibus id maxime in votis erat, tantam earum cognitionem consequi, ut edendis Arabum et Persarum libris hucusque ineditis majori, quam fieri potest, si tantummodo in bibliothecarum scriniis latent, virorum doctorum parti aditum ad eos patefacerem et aliquantum de iis mererer. Jam post quatuor annorum studia, quo tempore me, quantum profecerim, non poenitet, adii cl. *Benecke*, summum bibliothecae regiae Gottingensis praefectum, virum, qui magnam mihi praestat benevolentiam, rogans, ut, qui asserventur in bibliotheca nostra Codices Mss. Orientales, mihi ostendat. Is libenter annuit, sed mox vidi, haud magnum adhiberi posse delectum, quum exceptis quibusdam Korani Codicibus et precum libris alii non adsint multi et perpauci restent, quibus edendis quaedam utilitas literis afferatur. Attamen, monente etiam cl. *Ewald*, praeceptore de me optime merito, e cunctis feliciter elegisse mihi videor *Abu Zacarjam*, cujus vitas haud mediocriter capturas esse virorum doctorum animos mihi persuasum est.

PRAEFATIO.

In discendis linguis Orientalibus id maxime in votis erat, tantam earum cognitionem consequi, ut edendis Arabum et Persarum libris hucusque ineditis majori, quam fieri potest, si tantummodo in bibliothecarum scriniis latent, virorum doctorum partem aditum ad eos patefacerem et aliquantum de iis mererer. Jam post quatuor annorum studia, quo tempore me, quantum profecerim, non poenitet, adii cl. **Benecke**, summum bibliothecae regiae Gottingensis praefectum, virum, qui magnam mihi praestat benevolentiam, rogans, ut, qui asserventur in bibliotheca nostra Codices Mss. Orientales, mihi ostendat. Is libenter annuit, sed mox vidi, haud magnum adhiberi posse delectum, quum exceptis quibusdam Korani Codicibus et precum libris alii non adsint multi et perpauci restent, quibus edendis quaedam utilitas literis afferatur. Attamen, monente etiam cl. **Ewald**, praeceptore de me optime merito, e cunctis feliciter elegisse mihi videor **Abu Zaerjam**, cujus vitas haud mediocriter capturas esse virorum doctorum animos mihi persuasum est.

22. 7. 1944. 52

VIRO ILLUSTRISSIMO

GEO. HENRICO AUG. EWALD

PROFESSORI PUBLICO ORDINARIO GOTTINGENSI, SOCIETATIS ASIAT. PARIS. SOCIO

PRAECEPTORI SUO OPTIMO

HUNCCE LIBELLUM

TANQUAM GRATISSIMI ANIMI TESTEM

D. D. D.

EDITOR.

Gen. 2

893.7112

N232

COLUMBIA
UNIVERSITY
LIBRARY

كتاب تهذيب الاسماء
لاي زكارها بحبي النوروي

LIBER CONCINNITATIS NOMINUM

ID EST:

VITAE ILLUSTRIVM VIRORVM

AUCTORE

ABU ZACARJA JAHJA EN-NAVAVI.

E CODICE MS. BIBLIOTHECAE REGIAE GOTTINGENSIS

ARABICE EDIDIT, LATINE VERTIT, ANNOTATIONES ADDIDIT

HENRICUS FERDINANDUS WÜSTENFELD

PHILOSOPHIAE DOCTOR.

SECTIO PRIMA, QUA CONTINENTUR PRAEFATIO ET MOHAMMEDIS VITA.

GOTTINGAE

SUMTIBUS PROPRIIS, TYPIS DIETERICHIANIS.

MDCCLXXII.

**Columbia University
in the City of New York**

THE LIBRARIES



Presented by

Mrs. Emma Gotthell in memory of her husband

RICHARD JAMES HORATIO GOTTHEIL

1862 — 1936

A.B., 1881, Columbia, Ph.D., 1886, Leipzig.

Litt.D., 1929, D.H.L., 1933

Professor of Semitic Languages and Rabbinical Literature,
Columbia, 1887-1936



CU58865250

893.7112 N232

Liber constituta